


وہ دین جس کی ہر بات وحی خدا

مالک مختار نبی

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ

رَضَائِكُمْ لَنَا لَشَاءَعْتُمْ لَنَا هُوَ بَاكْتِكُمْ

وہ دہن حسرت کی ہر بات وحی خدا

ماک و مختار نبی

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تاریخی نام

مُنِيرُ الدِّينِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ كَرِيمِ بْنِ
۱۱ ۱۲ ۱۳

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ

رَضَا بِنِ الدِّينِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ كَرِيمِ بْنِ



نام کتاب _____ مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم

تصنیف _____ شاہ احمد رضا خاں بریلوی

ناشر _____ رضا دار الاشاعت لاہور

مطبع _____ احمد سجاد آرٹ پریس لاہور

قیمت _____ ۱/۹

رِضَا دَارِ الْاَشَاعَاتِ

۲۵ نشتر روڈ، لاہور، پاکستان فون ۷۶۵۰۴۴۰

RAZA DAR-UL-ASHAAT

25 Nashtar Road, Lahore Pakistan. Ph: 7650440

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

اینگلیش

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

تقریباً دو سو سال قبل مولوی اسماعیل دہلوی کی تصنیف تقویت الایمان کی اشاعت کے بعد ملت اسلامیہ میں انتشار و افتراق پیدا ہوا جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، گھٹتا نہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس کو محبوب و مطاع بنایا گیا تھا نہ ختم ہونے والے بحث و مباحثہ کا محور بن گئی۔ یہ ایک عظیم المیہ نہیں، یہ گھر کا رونا ہے۔ جو دل و دماغ ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا، وہاں گستاخیاں بسیر کرنے لگیں، گلشنِ اجڑنے لگے، باغ ویران ہونے لگے۔

امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ ابر بہار بن کر آئے، آیات و احادیث کے وہ چمن کھلاتے کہ دماغ معطر ہو گئے اور دل روشن ہو گئے۔ پیش نظر رسالہ، مولوی اسماعیل دہلوی کی بعض نہایت ہی دل آزار باتوں کا نہایت ہی دل آویز

جواب ہے۔ محدث بریلوی نے اس تحریر کو اس نام سے معنون کیا ہے :-

”مَنِيَّةُ اللَّيْبِ اِنَ التَّشْرِيعِ بِيَدِ الْحَبِيبِ“

(۱۳۱۱ھ / ۱۸۹۳ء)

یہ تحریر کیا ہے ایک مہکتا باغ ہے جس کا ایک ایک پھول مشام جان و ایمان کو معطر کر کے مست و بخود کئے دیتا ہے۔ اس رسالے میں محدث بریلوی علیہ الرحمۃ نے بکثرت آیات و احادیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجبور و بے اختیار نہیں بلکہ اس کے کرم سے حاکم و مختار ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ محدث بریلوی نے سیرت پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ! محدث بریلوی علیہ الرحمۃ کا تو محورِ فکر ہی سیرت ہے، انہوں نے سیرت کے اُن گوشوں پر قلم اٹھایا جن کو سیرت نگاروں نے چھوٹا تک نہیں۔ جن فضائل پر سیرت نگاروں نے ایک دو صفحے لکھے محدث بریلوی علیہ الرحمۃ نے کئی کئی تحقیقی مقالے لکھ ڈالے۔ جب محدث بریلوی سیرت رسول علیہ التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ پر سوچتے ہیں تو اُن کی پروازِ فکر دیدنی ہوتی ہے، جب وہ سیرت حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں تو اُن کی روانی قلم دیدنی ہوتی ہے، پیش نظر رسالہ اس دعوے پر شاہدِ عادل ہے۔

مولوی اسماعیل دہلوی نے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عجیب و غریب بحث کا آغاز کیا۔ ”مجبور یا مختار؟“ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ!

اپنے حلقہ اثر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور و بے اختیار ثابت کرنا چاہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دانا و بتینا عالم و فاضل تھے اگر ایسا تھا تو پھر یہ بات ضرور سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ جب ملک کا ایک عام وزیر اور افسر اپنے اپنے دائرہ اختیار میں مختار ہوتا ہے بلکہ اختیار کے حوالے ہی سے اس کو وزیر و افسر جانا اور مانا جاتا ہے۔ اختیار نہ ہو تو وزیر، وزیر نہیں اور افسر، افسر نہیں۔ تو پھر حکم الحاکمین نے

جس کو اپنا نائب، خلیفہ، خاتم النبیین اور رحمۃ اللعالمین (صلی اللہ علیہ وسلم) بنا کر بھیجا وہ کیسے مجبور
 بے اختیار ہو سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ یہ بات تو عقلی ہے جو عقل والوں کی سمجھ میں آجاتی ہے
 مگر جو نقل سے جاننا چاہتے ہیں ان کے لئے آیات و احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے
 ۔۔۔۔۔ افسوس صد افسوس ملتِ اسلامیہ نے جس کو اپنا قائد و رہنما سمجھا اس نے خیانت
 کی اور سچی باتیں نہ بتائیں، حق کو چھپایا اور جس نے سچی باتیں بتائیں اور حق کو عالم آشکار کیا
 اس کو تیر ملامت کا نشانہ بنایا گیا، اس پر تہمتوں کے انبار لگا دیئے گئے۔۔۔۔۔ یہ
 ہماری تاریخ کا عظیم المیہ ہے جس کی طرف حق پسند مورخین کو توجہ دینی چاہیے۔۔۔۔۔

نہ معلوم ہم کو کیا ہو گیا، ہم مدح کے حوالے سے بادشاہوں کے بارے میں اتنے حساس
 نہیں جتنے حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حساس ہیں۔۔۔۔۔ اُس ماحول میں
 جہاں قصیدہ گو شعرِ ابادشاہوں کی شان میں اور اپنے ممدوحین کی تعریف میں زمین و آسمان کے
 قلابے ہلارے تھے، توحید کے کسی پرستار نے ان کی زبان کو لگام نہ دی اور کسی نے
 کفر و شرک کا حکم نہ لگایا۔۔۔۔۔ ایک دنیوی بادشاہ کے لئے منہ سے نکلنے والی ہر نامقول
 بات حق و صحیح سمجھی گئی بلکہ اس کو تاریخ و ادب کا حصہ بنا دیا گیا مگر جب بات محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و مدح کی آئی تو سچی باتیں بھی کڑوی معلوم ہونے لگیں۔۔۔۔۔
 اہل دانش اور اہل ادب کے لئے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔۔۔۔۔

محدث بریلوی علیہ الرحمۃ اپنے ممدوح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثناء
 میں رطب اللسان ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔
 وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات
 نہیں کرتے، یہی ان کا خاص امتیاز ہے۔۔۔۔۔ ملتِ اسلامیہ کو ان سے دُور رکھنے کے
 لئے یہ بات مشہور کر دی گئی کہ وہ قرآن و حدیث سے واقف نہیں تھے، مگر سچی بات دیر تک
 چھپی نہیں رہتی، ظاہر ہو کر رہتی ہے۔۔۔۔۔ علم تفسیر و علم حدیث میں محدث بریلوی علیہ الرحمۃ

کا پایہ بہت بلند تھا، علمائے عرب نے ان کو مُفسر و مُحدّث مانا ہے۔ چنانچہ شیخ حمدانی دینی
الجزائری نے محدث بریلوی کو ”المفسر“ ”المحدّث“ لکھا ہے (الدولۃ المکیہ، ص ۸۸)

اسی طرح شیخ نسین احمد الخیاری نے ”امام المحدثین“ لکھا ہے (الدولۃ المکیہ، ص ۴۰)۔
مُحدّث بریلوی کے درس و مطالعہ میں پچاس سے زیادہ کُتب حدیث رستی تھیں (انہما

الحق الجلی۔ ص ۲۲ - ۲۵)۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے اُستاد ایس۔ ایم خالد الحامدی
اپنے مقالہ، ڈاکٹریٹ میں علم حدیث میں پاک و ہند کے علمائے کی خدمات کا جائزہ لے رہے
ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک باب مُحدّث بریلوی علیہ الرحمۃ کے لئے مختص کیا ہے۔ اور

چالیس سے زیادہ علم و حدیث پر تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ مولانا منظور احمد صاحب
(امام مسجد رحمانیہ، کراچی) مُحدّث بریلوی علیہ الرحمۃ پر علم حدیث کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی
سے ڈاکٹریٹ کرنے والے ہیں۔ مُحدّث بریلوی علیہ الرحمۃ پر علم حدیث کے حوالے

سے دو تین کام اور ہوتے ہیں۔ علامہ محمد ظفر الدین رضوی نے الجامع الرضوی کے

عنوان سے چھ مجلدات پر مشتمل ایک عظیم مجموعے کا بیڑا اٹھایا تھا جس میں مُحدّث بریلوی علیہ الرحمۃ
اور دیگر علمائے تصانیف سے استفادہ کر کے ایسی احادیث شریفہ جمع کی جاتیں جن پر مذہب

حنفی کی عمارت کھڑی ہے۔ اس منصوبے کی پہلی اور دوسری جلدیں تیار ہو گئی تھیں۔ دوسری
جلد کتاب الطہارت اور کتاب الصلوٰۃ پر مشتمل ہے۔ ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہو

چکی ہے، پہلی جلد کا مخطوطہ جو کتاب العقائد سے متعلق ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مختار الدین احمد کی
عنایت سے ملا ہے۔ مُفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی، رضا فاؤنڈیشن، لاہور کی طرف سے اس

کی تدوین و تخریج اور طباعت و اشاعت کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ ایک اور
اہم کام جامعہ نوریہ رضویہ کے فاضل اُستاد علامہ محمد حنیف رضوی نے انجام دیا ہے۔ موصوف

رضادار الاشاعت، بہیری (بریلی) کے مہتمم بھی ہیں، آپ نے اہم مطبوعات شائع
کی ہیں۔ اپنے ایک مکتوب محرر، ۱۲ جنوری ۱۹۹۵ء میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ

مشکوٰۃ شریف کے طرز پر احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ جمع کیا ہے جو کلیتہً فتاویٰ رضویہ کی ضخیم مجلدات پر مبنی ہے۔ یہ مجموعہ فُل اسکیپ سائز کے ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے، ابھی کام جاری ہے اور محدث بریلوی کی سینکڑوں دوسرے کتب و رسائل سے استفادہ کرنا ہے اُمید ہے کہ یہ کام دو ہزار صفحات تک پھیل جائے گا۔ فتاویٰ رضویہ کے ماخذ و مراجع میں صرف علم حدیث سے متعلق ۱۰۲ کتابوں کی فہرست تیار ہوئی ہے جو ۲۰۰ مجلدات تک پہنچتی ہے کیونکہ بعض کتب احادیث دس دس اور بیس بیس جلدوں پر مشتمل ہیں۔

یہ تمام تفصیلات محض اس لئے عرض کی گئیں تاکہ قارئین کرام کو اندازہ ہو جائے کہ علم حدیث میں محدث بریلوی کا پایہ کتنا بلند تھا جس کو مخالف و موافق سب نے تسلیم کیا ہے لیکن جن کے مزاج میں ضد و ہٹ دھرمی ہے انہوں نے نہ مانا کیونکہ وہ بعض وجوہ کی بناء پر معذور ہیں۔

احادیث شریفہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، محدث بریلوی علیہ الرحمۃ عاشق رسول علیہ التحیتۃ والتسلیم تھے، عاشق کو معشوق کی باتیں نہ معلوم ہوں گی تو کس کو ہوں گی؟

اور وہ ہم کو نہ بتاتے گا تو اور کون بتاتے گا؟ محدث بریلوی علیہ الرحمۃ نے یہ رسالہ لکھ کر ملت اسلامیہ پر احسان فرمایا، آپ نے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح فرمادی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کے کرم سے مختار ہیں۔ جو چاہیں حکم فرمائیں، جس کو چاہیں عطا فرمائیں، جس کو چاہیں معاف فرمائیں۔

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ


تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے!

احقر محمد مسعود احمد عفی عنہ

کراچی۔ سندھ

۱۶۔ صفر المنظر ۱۴۱۶ھ

۱۵۔ جولائی ۱۹۹۵ء



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
 خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ○ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ○
 وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○

احادیث تحریم حرم مدینہ طیبہ

بحکم حکم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حدیث (۱) ۱۳۰ صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی۔

اللَّهُمَّ إِنَّ أِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ
 مَكَّةَ وَإِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ
 لَابَتَيْهَا۔
 کو حرم کر دیا اور میں دونوں سنگستان مدینہ طیبہ
 کے درمیان جو کچھ ہے اُسے حرم بناتا ہوں۔

هُمَا وَأَحْمَدُ وَالطَّلْحَاوِيُّ فِي شَرْحِ
 مَعَانِي الْأَشَارِعِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
 حدیث (۲) ۱۳۱ نیز صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إِنَّ أِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا
 بِشَكَ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّلِيمُ نِي

۱۔ سولہ حدیثیں کہ مدینہ طیبہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم کر دیا۔

۲۔ پانچ حدیثیں کہ مکہ معظمہ کو ابراہیم علیہ الصلوة والسلام نے حرم کر دیا۔

مکہ معظمہ کو حرم بنا دیا اور اُس کے ساکنوں کے لیے دعا فرمائی اور بیشک میں نے مدینہ طیبہ کو حرم کر دیا جس طرح انہوں نے مکہ کو حرم کیا اور میں نے اُس کے پیمانوں میں اس سے دو تہی برکت کی دعا کی جو دعا انہوں نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔

لِأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا
حَرَمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّي
دَعَوْتُ فِي صَاعِيهَا وَمَدَّهَا بِمِثْلِي
مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ

هُم جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
حدیث ۱۳۲ - نیز صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی الہی بیشک ابراہیم تیرے نلیل اور تیرے نبی ہیں اور تو نے ان کی زبان پر مکہ معظمہ کو حرم کیا۔

اللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيِّكَ
وَإِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -
الہی میں تیرا بندہ اور نبی ہوں میں مدینہ طیبہ کی دونوں حدوں کے ساری زمین کو حرم بنانا ہوں۔

امام طحاوی نے اس کے قریب روایت کی اور یہ زائد کیا۔
وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْضَدَ شَجْرُهَا
أَوْ يُخْبَطَ أَوْ يُؤْخَذَ طَيْرُهَا
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کا پیڑ کاٹیں یا پتے جھاڑیں یا اس کے پرندوں کو پکڑیں۔

حدیث ۱۳۳ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ
الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْطَعَ عِضَاهَا
بیشک میں حرم بنانا ہوں دو سنگلاخ مدینہ کے درمیان کو کہ اس کی بولین نہ کاٹی جائیں۔

لہ عزاء لہما فی منتخب کنز العمال ولعزہ لہما فی السعاء فان لفظہ اللہ وان ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام
عبدک و نلیلک و نبیک وانی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک لہمکہ ومثلہ معہ ۱۲-۱۱۲۱

وَيُقْتَلُ صَيْدُهَا
 هُوَ وَأَحْمَدُ وَالطَّحَاوِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
 اور اُس کا شکار نہ مارا جائے۔

حَدِيثُ ١٣٢ - نيز صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ
 وَإِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
 بیشک ابراہیم نے مکہ معظمہ کو حرم کر دیا اور
 میں مدینہ کے دونوں سنگلاخ کے درمیان
 کو حرم کرتا ہوں۔

هُوَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
 حَدِيثُ ١٣٥ - نيز صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي
 حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا
 بَيْنَ مَا زَمِيهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ
 فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ سِلَاحٌ
 لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا
 شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ - ٢٢٣/٢
 الہی بیشک ابراہیم نے مکہ معظمہ کو حرام کر کے
 حرم بنا دیا اور بیشک میں نے مدینہ کے
 دونوں کناروں میں جو کچھ ہے اُسے حرم
 بنا کر حرام کر دیا کہ اُس میں کوئی خون نہ گرایا
 جائے نہ لڑائی کے لئے ہتھیار باندھیں
 نہ کسی کے پتے جھاڑیں مگر جانور کو چارہ
 دینے کے لئے۔

حَدِيثُ ١٣٦ - نيز صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں
 اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ
 مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَمَا
 حَرَّمْتَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ
 الہی بیشک میں نے تمام مدینہ کو حرم
 کر دیا جس طرح تو نے زبان ابراہیم پر
 حرم محترم کو حرم بنا دیا۔

الْحَرَمِ بِهِ وَالرُّوْيَانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

حدیث ۱۳۷ - نیز صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنَّ أِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ بَيْتَ اللَّهِ وَأَمَّنَهُ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يَقْطَعُ عِضَاهُمَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُمَا.

بیشک ابراہیمؑ نے بیت اللہ کو حرم بنا دیا اور امن والا کر دیا اور میں نے مدینہ طیبہ کو حرم کیا کہ اُس کے خار دار و درخت بھی نہ کاٹے جائیں اور اُس کے وحشی جانور شکار نہ کئے جائیں۔

هُوَ وَالطَّحَاوِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

حدیث ۱۳۸ - صحیحین میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ إِثْنَيْ عَشْرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى

تمام مدینہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم کر دیا اور اُس کے آس پاس بارہ بارہ میل تک سبزہ و درخت کو لوگوں کے تصرف سے اپنی حمایت میں لے لیا۔

هُمَا وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ابْنُ جَرِيرٍ كِي رَوَيْتَ

لہ کذا فی منتخب کنز العمال ۱۲ منہ لہ باللفظ المسوق عزاه لمسلم

خاتم الحفاظ في الجامع والذي رأيت له بلفظ ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة. الحديث مثله نعم اللفظ المذكور للامام ابى جعفر ۱۲ منہ

الثلاثة في المنتقى والرابع في

المنتخب ۱۲ منہ ۳ مکر معطرہ کو ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امن والا کر دیا

یوں ہے فرمایا :-
 حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَجَرَهَا أَنْ
 يُعْضَدَ أَوْ يُخْبَطَ -
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ
 طیبہ کے پیڑ کاٹنا یا ان کے پتے
 جھاڑنا حرام فرمادیا۔

رَوَاهُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ الْمُهَذَّبِ عَنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
 حدیث ۱۳۹ - صحیح مسلم شریف میں ہے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے فرمایا :-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا
 بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ -
 بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نے تمام مدینہ طیبہ کو حرم بنا دیا۔

هُوَ وَالطَّحَاوِيُّ فِي مَعَانِي الْأَثَارِ

حدیث ۱۴۰ - نیز صحیح مسلم و معانی الآثار میں عاصم احوں سے ہے۔

قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
 أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
 قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثُ زَادَ أَبُو
 جَعْفَرٍ فِي رِوَايَةٍ لَا يُعْضَدُ
 شَجَرُهَا وَلَمْ يَلْمِ فِي أُخْرَى
 نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يُخْبَطُ
 خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
 فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
 یعنی میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 پوچھا کیا مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے حرم بنایا۔ فرمایا ہاں۔ اس کا
 پیڑ نہ کاٹا جائے اس کی گھاس نہ چھیلی
 جائے جو ایسا کرے اس پر لعنت ہے
 اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی۔
 والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -

حدیث ۱۲۱ - سنن ابی داؤد میں ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ

عنه نے فرمایا :-

بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
و سلم نے اس حرم محترم کو حرم بنا دیا۔
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ
هَذَا الْحَرَمَ -

حدیث ۱۲۲ - شریحیل کہتے ہیں ہم مدینہ طیبہ میں کچھ جال لگا رہے تھے زید

بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جال پھینک دیئے اور فرمایا :-

تمہیں خبر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا شکار حرام کر دیا ہے
أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَرَّمَ صَيْدَهَا الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ

ابوبکر بن ابی شیبہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں

روایت کی کہ :-

بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ
کے دونوں سنگلاخ کے مابین کو حرم
کمر دیا۔
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ
لَا بَيْتَيْهَا -

حدیث ۱۲۳ - ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-

بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے تمام مدینہ کو حرم بنا دیا ہے کہ
اُس کے پیر نہ کاٹیں نہ پتے جھاڑیں۔
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ
لَا بَيْتِي الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْضَدَ
شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطَ -

حدیث (۱۵) ۱۲۲۔ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ایک چڑیا پکڑی تھی اُسے لئے ہوتے باہر گیا۔ میرے والد ماجد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے شدت سے میرا کان مل کر چڑیا کو چھوڑ دیا اور فرمایا

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيْدَ مَا
بَيْنَ لَا بَتِّيْهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْنِ
كَاشَكَارَ حَرَامٍ فَرَمَا دِيَابِے۔

حدیث (۱۶) ۱۲۵۔ صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْبُقَيْعَ
وَقَالَ لَا جَمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
بِشِكِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَبِيْنِ بَقِيعٍ كُو حَرَمٍ بِنَا دِيَا اُوْر فَرَمَا يَا چَرَا گَا
كُو كُوْنِي اِيْنِي حَمَايْتِ مِيْن نَهِيْن لَے سَكْتَا سُوَا
اللَّهِ وَرَسُولِ كَے جَل جَلَالَه وَصَلِي اللّٰه
تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ۔

رَوَى الثَّلَاثَةُ الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ ^(۱۶) يَه سُوْلَه حَدِيْثِيْن هِيْن۔ پَهْلِي اَٹھ
میں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مدینہ طیبہ کو حرم کر دیا اور
پچھلی آٹھ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے حرم کو
دینے سے مدینہ طیبہ حرم ہو گیا۔ حالانکہ یہ صفت خاص اللہ عزوجل کی ہے۔ پہلی آٹھ سے
پانچ میں اپنے پدر کریم سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیّۃ والثناء کی طرف بھی یہی
نسبت ارشاد ہوئی کہ مکہ معظمہ کی حرم محترم انہوں نے حرم کر دی انہوں نے امن والی بنا
دی حالانکہ خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى
وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ۔
بِشِكِّ مَكَّه مَعْظَمَه كُو اللّٰه تَعَالَى نَے حَرَم كِيَا جَے
كُسي اُوْمِي نَے نَهِيْن كِيَا۔

الْبُخَارِيُّ وَالْتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ بْنِ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. یہ اسنادیں خاص ہمارے رسالہ کی مقصود ہیں مگر یہاں جان و ہابیت پر ایک آفت اور سخت و شدید تر ہے مدینہ طیبہ کے جبل کا حرم ہونا نہ فقط انھیں سولہ بلکہ ان کے سوا اور بہت احادیث کثیرہ میں وارد ہے۔ مثلاً

حَدِيثٌ (۱۸۰) صحیحین انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْتَعُ شَجَرُهَا مَدِينَةُ يِهَاءِ مِنْ يِهَاءِ تَمَّ حَرَمٌ هِيَ إِلَى كَذَا لَا يُقْتَعُ شَجَرُهَا أَسْ كَاطِرٌ نَزَّ كَانَا جَاءَ.

هُمَا وَأَحْمَدُ وَالطَّحَاوِيُّ وَاللَّفْظُ لِلْجَامِعِ الصَّحِيحِ حَدِيثٌ (۱۸۱) صحیحین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں :-

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ الْحَدِيثُ مَدِينَةُ حَرَمٌ هِيَ.

هُمَا وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

حَدِيثٌ (۱۹۱) صحیحین مولیٰ علیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :-

مَدِينَةُ يَمِينٍ مِنْ يَمِينِ تَمَّ حَرَمٌ هِيَ أَسْ كَاطِرٌ نَزَّ كَانَا جَاءَ. مَدِينَةُ يَمِينٍ مِنْ يَمِينِ تَمَّ حَرَمٌ هِيَ أَسْ كَاطِرٌ نَزَّ كَانَا جَاءَ.

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا وَلِمُسْلِمٍ وَالطَّحَاوِيُّ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى تَوْرٍ الْحَدِيثُ زَادَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا.

حدیث (۲۰) صحیح مسلم سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مبارک سے مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا :-

إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ
بیشک یہ امن والی حرم ہے۔
هُوَ وَأَحْمَدُ وَالطَّحَاوِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ

حدیث (۲۱) امام احمد حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمٌ وَحَرَمِيَّ
الْمَدِينَةَ
ہر نبی کے لئے ایک حرم ہوتی ہے اور
میری حرم مدینہ ہے

حدیث (۲۲) عبد الرزاق حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ دَافَّةٍ
أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ
الْعِضَةِ الْحَدِيثِ
بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر
گروہ مردم کو کہ حاضر مدینہ طیبہ ہو اُس
کے خار دار درختوں سے ممنوع فرما دیا۔

حدیث (۲۳) امام طحاوی بطریق مالک عن یونس بن یوسف عن
عطاء بن یسار کہ لڑکوں نے ایک روباہ کو گھیر کر ایک گوشے میں کر دیا تھا۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکوں کو دُور کر دیا۔ امام مالک فرماتے ہیں اور
مجھے اپنے یقین سے یہی یاد ہے کہ فرمایا :-

أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ
مَذَا
کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
حرم میں ایسا کیا جاتا ہے۔

حدیث (۲۴) منذ الفردوس عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-

يَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ
الْبُقَيْعَةِ وَمِنْ هَذَا الْحَرَمِ
سَبْعِينَ أَلْفًا وَجُوهَهُمْ كَالْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ

اللہ تعالیٰ روزِ قیامت اس بقیع اور اس
حرم سے ستر ہزار شخص ایسے اٹھائے گا
کہ بے حساب جنت میں جائیں گے اور
ان میں ہر ایک ستر ہزار کی شفاعت کرے
گا ان کے چہرے چودھویں رات کے
چاند کی طرح ہوں گے۔

اور اگر وہ حدیثیں گئی جائیں جن میں مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کو حرمین فرمایا تو عدد کثیر ہیں
بالجملہ حدیثیں اس باب میں حد تو اتار پر ہیں تو بالیقین ثابت کہ مصطفیٰ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے مدینہ طیبہ کے جنگل کا تاکید تمام و اہتمام تمام وہی ادب مقرر فرمایا جو مکہ معظمہ کے جنگل کا
بالیہمہ طائفہ تالفہ و ہابیرہ کا امام بد فرجام بجمال دریدہ دہنی صاف صاف لکھ گیا۔
گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا درخت نہ کاٹنا یہ کام اللہ
تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پیر پیغمبر یا بھوت و پری کے
مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے سو اس پر شرک ثابت ہے۔

کیوں ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک مذہب ملعون مشرب اسی لئے نکلا ہے کہ اللہ و
رسول تک شرک کا حکم پہنچاتے پھر اور کسی کی کیا گنتی۔ تھ ہزار بروئے بدینی اب
دیکھنا ہے کہ اس امام بے لگام کے مقلد کہ بڑے موحد بنے پھرتے ہیں اپنے امام کا ساتھ
دیتے ہیں يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ پڑھنے کی کچھ لاج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے
بے شمار درودیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ادب و غلاموں پر

۱۸۵۲ فائدہ مہر کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاکید تمام جس بات کا حکم فرمائیں امام الطائفہ صراحتہ کہے
یہ تو شرک ہے اب دیکھیں وہابی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔

تنبیہ ۱۵۱۵ء مسلموں کو صرف یہی نہ سمجھنا کہ اس گمراہ امام الطائفہ کے نزدیک حرم محترم حضور پر نور مالک الامم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ہی شرک ہے۔ نہیں نہیں بلکہ اس کے مذہب میں جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سرابا طہارت کے لئے مدینہ طیبہ کو چلے اگرچہ چار پانچ ہی کوس کے فاصلے سے (کہ کہیں ہابیت کے شد الرحال کا ماتھا نہ ٹھنکے) اُس پر راستے میں بے ادبیاں بے ہودگیاں کرتے چلنا فرض عین و جزو ایمان ہے یہاں تک کہ اگر اپنے مالک و آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کے خیال سے با ادب مہذب بن کر چلے گا اس کے نزدیک مشرک ہو جائے گا اسی کتاب ضلالت مآب کے اسی مقام میں رستے میں نامعقول باتیں کرنے سے بچنا بھی انہیں امور میں گنا دیا جنہیں خدا پر افتراء کر کے کہتا ہے۔

یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے اپنے بندوں کو بتائے ہیں جو کوئی کسی پیرو پیغمبر کے لئے کرے اُس پر شرک ثابت ہے سُبْحَانَ اللَّهِ نامعقول باتیں کرنا بھی جزو ایمان نجدیہ ہے بلکہ سچ پوچھو تو ان کا تمام ایمان اسی قدر وہ تو خیر یہ ہو گئی کہ مجتہد الطائفہ کو یہ عبارت لکھتے وقت آیہ کریمہ فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقًا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ پوری یاد نہ آتی ورنہ راہِ مدینہ میں فسق و فجور کرتے چلنا بھی فرض کہہ دیتا وہ بھی ایسا کہ جو وہاں فسق سے باز آئے مشرک ہو جائے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

لطیفہ ۱۸۶۶ء حضرت نجدیہ خُدارا انصاف! کیا افعال عبادت سے بچنا انبیاء و اولیاء ہی کے معاملہ سے خاص ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشرک کے کام

۱۸۶۵ء ذرا ملاحظہ ہو مدینہ طیبہ کے راستے میں نامعقول باتیں کرنا و ہابیت کا جزو ایمان ہے جو نہ کرے اُن کے نزدیک مشرک ہو جائے۔

۱۸۶۶ء عجب عجب کہ ہر راستے میں باہم جوتی پیزار ہونا و ہابیت کا جزو ایمان ہے نہ کریں تو سب مشرک ہو جائیں

جانز نہیں نہیں جو شرک ہے ہر غیر خدا کے ساتھ شرک ہے تو آپ حضرات جب اپنے کسی تذیر بشیر یا پیر فقیر یا مرید راشد یا دوست عزیز کے یہاں جایا کیجئے تو راستے میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ماتھا رگڑتے چلا کیجئے ورنہ دیکھو کھلم کھلا مُشرک ہو جاؤ گے ہرگز مغفرت کی بونہ پاؤ گے کہ تم نے غیر حج کی راہ میں ان باتوں سے بچ کر وہ کام کیا جو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے اپنے بندوں کو بتایا تھا اور اس جوتی پزار میں یہ نفع کیسا ہے کہ ایک کام میں تین مزے جدآل ہونا تو خود ظاہر اور جب بلا وجہ ہے تو فسوق بھی حاضر اور رفت کے معنی ہر نامعقول بات کے ٹھہرے تو وہ بھی حاصل ایک ہی بات میں ایمان نجدیت کے تینوں رکن کامل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم الحمد للہ خامۃ برق بار رضا خرمن سوز ہی نجدیت میں سب سے زلال رنگ رکھتا ہے والحمد للہ رب العالمین ۔

تذیل و تکمیل اقوال وباللہ التوفیق احکام الہیہ دو قسم ہے تکوینیہ مثل اجبار و امانت و قضائے حاجت و دفع مصیبت و عطائے دولت و رزق و نعمت و فتح و شکست وغیرہ عالم کے بند و بست دوسرے تشریحیہ کہ کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا مسلمانوں کے سچے دین میں ان دونوں حکموں کی ایک ہی حالت ہے کہ غیر خدا کی طرف بروجہ ذاتی احکام تشریحی کی اسناد بھی شرک ۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرٌ لَهُمْ
شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ
الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ

کیا ان کے لئے خدا کی الوہیت میں کچھ
شریک ہیں جنہوں نے ان کے واسطے دین
میں وہ راہیں نکال دی ہیں جن کا خدا نے
حکم نہ دیا۔

اور بروجہ عطائی امور تکوین کی اسناد بھی شرک نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ

۱۸۸۹ء احکام تشریحیہ تکوینیہ میں کچے وہابیوں کا تفرقہ محض تحکم اور خود اپنے مذہب سے اندھا پن ہے

وَالْمُدِيرَاتِ أَمْرًا قسم ان مقبول بندوں کی جو کاروبارِ عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔

مقدمہ رسالہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب کی شہادت سن چکے کہ حضرت امیر و ذریعہ طاہرہ اور اتمام اُمت بر مثال پیران و مُرشدان میرپستند و امور تکوینیہ را با ایشان وابستہ میدانند۔ مگر کچھ وہابی ان دو قسموں میں فرق کرتے ہیں اگر کہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرض کی یا فلاں کام حرام کر دیا تو شرک کا سودا نہیں اُچھلتا اور اگر کہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعمت دی یا غنی کر دیا تو شرک سُوجھتا ہے یہ اُن کا نرا تحکم ہی نہیں خود اپنے مذہب نامہ مذہب میں کچا پن ہے۔ جب ذاتی و عطائی کا تفرق اٹھا دیا پھر احکام احکام میں فرق کیسا سب یکساں شرک ہونا لازم آخر ان کا امام مطلق و عام کہہ گیا کہ

کسی کام میں نہ بالفعل اُن کو دخل ہے اور نہ اُس کی طاقت رکھتا ہے نیز کہا کسی کام کو روایا ناروا کر دینا اللہ ہی کی شان ہے صاف تر کہا کسی کی راہ و رسم کو ماننا اور اُسی کے حکم کو اپنی سند سمجھنا یہ بھی اُنہیں باتوں میں سے ہے کہ خاص اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے ٹھہرائی ہیں تو جو کوئی یہ معاملہ کسی مخلوق سے کرے تو اُس پر بھی شرک ثابت ہوتا ہے اور آگے اُس کا قول سوا اللہ کے حکم پہنچنے کی راہ بندوں تک رسول ہی کا خبر دینا ہے اس میں وہ رسول کو حاکم نہیں مانتا صرف مخبر و پیام رساں مانتا ہے اور اس سے پہلے حصر کے ساتھ تصریح کر چکا ہے کہ

پیغمبر کا اتنا ہی کام ہے کہ بُرے کام پر ڈرا دیوے اور بھلے کام پر خوشخبری سُنا دیوے نیز کہا کہ انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا سو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور بُرے بھلے کاموں سے واقف ہیں سو لوگوں کو

۱۸۹ و ۸ امام ابوہبیرہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مخبر و پیام رساں مانتا ہے۔

بکھلاتے ہیں صرف بتانے جانے پہچانے پہچاننے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکم ان کے ہیں
 فرائض کو انہوں نے فرض کیا محرمات کو انہوں نے حرام کر دیا آخر میں جو احکام معلوم ہوئے
 اپنے بزرگوں سے آئے انہیں ان کے اگلوں نے بتائے ہیں یوں طبقہ بہ طبقہ تیج کو
 تابعین، تابعین کو صحابہ صحابہ کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ تو کیا کوئی کہے گا کہ
 نماز میرے باپ نے فرض کی ہے یا زنا کو میرے اُساد نے حرام کر دیا۔ نبی کی نسبت اگر
 یوں کہیے گا تو وہی ذاتی اور عطائی کا فرق مان کر اور وہ کسی کی راہ ماننے اور اُس کا حکم
 سند جاننے کو ان افعال سے گن چکا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لئے خاص کئے ہیں اور
 انہیں غیر کے لئے کرنے کا نام اشراک فی العبادۃ رکھا اور اس قسم میں بھی مثل دیگر اقسام
 تصریح کی۔

پھر خواہ یوں سمجھے کہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں یا یوں سمجھے کہ ان کی اس طرح
 کی تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے ہر طرح شرک ثابت ہے
 تو ذاتی و عطائی کا تفرقہ دین نجدیت میں قیامت کا تفرقہ ڈال دے گا وہ صاف کہہ
 چکا نہیں حکم کسی کا سوائے اللہ کے اُس نے تو یہی حکم کیا ہے کہ کسی کو اُس کو سوائے امت
 مانو جب رسول کو ماننے ہی کی نہ ٹھہری تو رسول کا حاکم ماننا اور فرائض و محرمات کو رسول
 کے فرض و حرام کر دینے سے جاننا کیونکر شرک نہ ہو گا غرض وہ اپنی دُھن کا پکھلے و لہذا
 مُحَمَّدَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے کس قدر تاکید شدید سے مدینہ طیبہ کے
 گرد و پیش کے جنگل کا ادب فرض کیا اور اُس میں شکار وغیرہ منع فرما دیا مگر یہ جو ارشاد ہوا
 کہ مدینے کو میں حرم کرتا ہوں اس چوٹی کے موصد نے کہ جا بجا کہتا ہے خدا کے سوا کسی کو نہ
 مانو صاف صاف حکم شرک جر دیا اور اللہ واحد قہار کے غضب کا کچھ خیال نہ کیا۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
 عنقریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ
 پلٹا کھاتے ہیں۔

تو مناسب ہوا کہ بعض احادیث وہ بھی ذکر کی جائیں جن میں احکام تشریحیہ کی اسناد صحیح ہے اور اب اس قسم کی خاص دو آیتوں کا ذکر بھی محمود اگرچہ آیات گزشتہ سے بھی دو آیتوں میں یہ مطلب موجود اور ان کے ذکر سے جب عدد آیات انصاف عقوو سے متجاوز ہوگا تو تکمیل عقد کے لئے تین آیتوں کا اور بھی اضافہ ہو کہ پچاس کا عدد پورا ہو جس طرح احادیث میں بعونہ تعالیٰ پانچ خمیسین یعنی ڈھائی سو کا عدد کامل ہوگا ورنہ استیعاب آیات میں منظور نہ احادیث میں مقدور۔ **وَاللّٰهُ الْهَادِيْ اِلَى مَنَاصِرِ السُّوْرِ**۔ ہم پہلے تین آیتیں تلاوت کریں کہ پھر احکام تشریحیہ کا بیان آیات واحادیث سے مسلسل رہے وباللہ التوفیق

آیت ۲۶۔ اِنْ كُنتُمْ کوئی جان نہیں جس پر ایک نگہبان متعین نہ ہو یعنی ملکہ ہر شخص کے حافظ و نگہبان

نَفْسٍ لَّمَّا عَلِيْهَا حَافِظٌ

۱۔ مثلاً یہی احکام تشریحیہ کی آیات بجزت ہیں جن سے دو ہی یہاں مذکور یوں ہیں اس مضمون میں کہ خلالت کو موت کے فرشتے دیتے ہیں صرف دو آیتیں اوپر گزریں قرآن عظیم میں آیتیں اس مضمون کی اور ہیں ہم ان پانچ کو یہاں ذکر کر دیں کہ اول پانچ آیتیں کتب سابقہ سے مذکور ہوئی ہیں ان کے سبب پچاس پوری صرف قرآن عظیم سے ہو جائیں

آیت ۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ بیشک وہ لوگ جنہیں موت دی فرشتوں نے۔

آیت ۲۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ۔ ہمارے رسول ان کے پاس آئے انہیں موت دینے کو۔ **آیت ۳۔ وَلَوْ تَرَى اِذِ تَوَفَّيْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلَائِكَةُ**۔ کاش تم دیکھو جب کافروں کو موت دیتے ہیں فرشتے۔ **آیت ۴۔ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ**۔ بیشک آج کے دن سوائی اور مصیبت کافروں پر ہے جنہیں موت فرشتے دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ستم ڈھاتے ہوئے ہیں۔ **آیت ۵۔ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ**۔ ایسا ہی بدلہ دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو جنہیں موت فرشتے دیتے ہیں پاکیزہ حالت میں

جعلنا اللہ منہم بفضل رحمة بہم آمین ۱۳ منہ

رہتے ہیں۔

یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری تاکہ تم
اے نبی لوگوں کو اندھیروں سے نکال لو روشنی
کی طرف ان کے رب کی پروانگی سے غالب
سرہے گئے کی راہ کی طرف۔

اور بے شک بالیقین ہم نے موسیٰ کو اپنی
نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ تو نکال
اے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔

آیت ۲۷۔ الر کتب
أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
آیت ۲۸۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔

اقول اندھیروں میں اور روشنی ایمان و ہدایات جسے غالب سرہے گئے
کی راہ فرمایا اور ایمان و کفر میں واسطہ نہیں ایک سے نکالنا قطعاً دوسرے میں داخل کرنا ہے
تو آیات کریمہ صاف ارشاد فرما رہی ہیں کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کفر سے
نکالا اور ایمان کی روشنی دے دی اس امت کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفر سے چھڑاتے
ایمان عطا فرماتے ہیں اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا یہ کام نہ ہوتا انہیں اس کی طاقت نہ ہوتی
تو رب عزوجل کا انہیں یہ حکم فرمانا کہ کفر سے نکال لو معاذ اللہ تکلیف بالائے طاق تھا۔ الحمد للہ
قرآن عظیم نے کیسی تکذیب فرمائی امام دہاب بیہ کے اس حصر کی کہ
پیغمبر خدا نے بیان کر دیا کہ مجھ کو نہ کچھ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی میری قدرت کا
حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے نفع نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا تو کیا کر سکوں
غرضیکہ کچھ قدرت مجھ میں نہیں فقط پیغمبری کا مجھ کو دعویٰ ہے اور پیغمبر کا اتنا ہی کام ہے کہ بُرے
کام پر ڈرا دیے اور بھلے کام پر خوشخبری سُناد دیوے۔ دل میں یقین ڈال دینا میرا کام نہیں انبیاء

۹ و ۱۰۔ ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں۔

۱۰ و ۱۱۔ امام ابوہاب بیہ کی دریدہ دہنی

میں اس بات کی کچھ بڑائی نہیں کہ اللہ نے عالم میں تصرف کی کچھ قدرت دی ہو کہ مرادیں پوری کر دیوں یا فتح و شکست دے دیوں یا غنی کر دیوں یا کسی کے دل میں ایمان ڈال دیوں۔ ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں عاجز اور بے اختیار اہم مخلصا مسلمانوں اس گمراہ کے ان الفاظ کو دیکھو اور ان آیتوں حدیثوں سے کہ اب تک گزریں ملاؤ دیکھو یہ کس قدر شدت سے خدا و رسول کو جھٹلا رہا ہے خیر لے اُس کی عاقبت کے حوالے کیجئے شکر اُس اکرم الاکرمین کا بجالائیے جس نے ہمیں ایسے کریم اکرم دائم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایمان دلویا ان کے کرم سے اُمید واثق ہے کہ بعونہ تعالیٰ محفوظ بھی رہے

تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا
تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا
ہاں یہ ضرور ہے کہ عطائے ذاتی خاصہ خدا ہے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ آپ بیشک جسے چاہیں ہدایت نہیں دیتے۔
وغیر ہا میں اسی کا تذکرہ ہے یہ کچھ ایمان کے ساتھ خاص نہیں پس یہ کڑی بھی بے عطائے
خدا کوئی بھی اپنی ذات سے نہیں دے سکتا ہے۔

”نا خدا نہ بد سلیمان کے دہر؟“

یہی فرق ہے جسے گم کر کے تم ہر جگہ بہکے۔

أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ تو کیا بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ انکار کرتے ہو۔

میں داخل ہوئے۔ نَسَأَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ وَتَمَامَ الْعَافِيَةِ وَدَوَامَ الْعَافِيَةِ وَالْحَمْدُ

لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

لڑو ان سے جو ایمان نہیں لائے اللہ اور

آیۃ ۴۹ : قَاتِلُوا الَّذِينَ

پچھلوں پر اور حرام نہیں مانتے اُس چیز کو

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

جسے حرام کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔

نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان
عورت کو جب حکم کر دیں اللہ و رسول کسی
بات کا کہ انھیں کچھ اختیار رہے اپنے معاملہ
کا اور جو حکم نہ مانے اللہ و رسول کا تو وہ
صریح گمراہی میں بہکا۔

الْأَخْرَجُوا مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ،

آیت ۵۰: مَا كَانَ

لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

آئمہ مفسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبل طلوع آفتاب
اسلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مول لے کر آزاد فرمایا اور متبنیٰ بنایا تھا حضرت زینب
بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھوپھی امیہ بنت
عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے نکاح کا پیغام دیا اول تو راضی ہوئیں اس گمان سے کہ حضور اپنے لئے خواستگاری فرماتے
ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے طلب ہے انکار کیا اور عرض کر بھیجا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور کی کھوپھی کی بیٹی ہوں ایسے شخص کے ساتھ اپنا نکاح
پسند نہیں کرتی اور ان کے بھائی عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار
کیا۔ اُس پر یہ آیت کریمہ اُتری۔ اسے سن کر دونوں بہن بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تائب ہوئے
اور نکاح ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللہ عزوجل کی طرف سے فرض نہیں کہ فلاں سے
نکاح پر خواہی نخواستہ ہی راضی ہو جائے خصوصاً جب کہ وہ اُس کا کفو نہ ہو خصوصاً جب کہ
عورت کی شرافتِ خاندان کو اکبِ ثریا سے بھی بلند و بالا تر ہو با اینہم اپنے حبیب صلی اللہ

۱۱۹۲ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے کام فرض ہو جاتا ہے اگرچہ فی نفسہ فرض نہ ہو

تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پر رب العزت جل جلالہ نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرماتے جو کسی فرض الہ کے ترک پر فرماتے جاتے اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنا نام اقدس بھی شامل فرمایا یعنی جو بات رسول تمہیں فرمائیں وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمانے سے فرض قطعی ہو گئی مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا اصلاً اختیار نہ رہا جو نہ مانے کا صریح گمراہ ہو جائے گا۔ دیکھو رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے اگرچہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک مباح و جائز امر تھا ولہذا ائمہ^{۱۹۳} دین خدا و رسول کے فرض میں فرق فرماتے ہیں کہ خدا کا کیا ہوا فرض اُس سے اقویٰ ہے جسے رسول نے فرض کیا ہے اور ائمہ^{۱۹۴} محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سپرد ہیں جو بات چاہیں واجب کر دیں جو چاہیں ناجائز فرمادیں۔ جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ کر دیں۔

امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی میزان الشریعۃ الکبریٰ ب

الوضو میں حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں :-

یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان	كَانَ الْاِمَامُ اَبُو حَنِيفَةَ
اکابر ائمہ میں ہیں جن کا ادب اللہ عزوجل	رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ اَكْثَرِ
کے ساتھ بہ نسبت اور ائمہ کے زائد ہے	الْاِئِمَّةِ اَدْبَامَعَ اللهُ تَعَالَى
اسی واسطے انہوں نے وضو میں نیت کو	وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْعَلِ النِّيَّةَ فُرْضًا
فرض نہ کیا اور وتر کا نام واجب رکھا کہ یہ	وَسَمَى الْوِتْرَ وَاجِبًا لِكُونِهِمَا
دونوں سنت سے ثابت ہیں نہ قرآن عظیم سے	ثَبَتًا بِالسُّنَّةِ لَا بِالْكِتَابِ فَقَصَدَ

۱۹۳ و ۱۲ احکام شریعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سپرد ہیں جس بات میں جو چاہیں اپنی طرف

سے حکم فرمادیں وہی شریعت ہے۔

۱۹۴ و ۱۳ خدا کا فرض رسول کے فرض کئے ہوئے سے اقویٰ ہے

تو امام نے ان احکام سے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرض اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرض میں فرق و تمیز کر دیں اس لئے کہ خدا کا فرض کیا ہوا اُس سے زیادہ متوکد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے فرض کر دیا جب کہ اللہ عزوجل نے حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو اختیار دے دیا تھا کہ جس بات کو چاہیں واجب کر دیں جسے نہ چاہیں نہ کریں

اسی میں بارگاہ وحی و تفرع احکام کی تصویر دکھا کر فرمایا :-

یعنی حضرت عزت جل جلالہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا تھا کہ شریعت میں جو حکم چاہیں اپنی طرف سے مقرر فرمادیں جس طرح حرم مکہ کی نباتات کو حرام فرمانے کی حدیث میں ہے کہ جب حضور نے وہاں کی گھاس وغیرہ کاٹنے سے نعت فرمائی حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گیاہ اذخرہ کو اس حکم سے نکال دیجئے فرمایا اچھا نکال دی اُس کا کاٹنا جائز کر دیا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے

بِذَلِكَ تَمَيِّزَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَمَيِّزًا أَوْجِبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَشَدُّ مِمَّا فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ حِينَ خَيَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوجِبَ مَا شَاءَ أَوْ لَا يُوجِبَ

كَانَ الْحَقُّ تَعَالَى جَعَلَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَعَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ مَا شَاءَ كَمَا فِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ شَجَرِ مَكَّةَ فَإِنَّ عَمَّهُ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخِرُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْأَذْخِرُ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يُشْرَعَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ لَمْ يَتَجَرَّعْ صَلَّى

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَشْنِي
شَيْئًا مَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ رُتبہ نہ دیا ہوتا
کہ اپنی طرف سے جو شریعت چاہیں مُقرر
فرمائیں تو ہرگز حضور ایسا نہ فرماتے کہ جو چیز
خدا نے حرام کی اُس میں سے کچھ مستثنیٰ فرمائیں۔

اقول یہ مضمون متعدد احادیث صحیحہ میں ہے

حدیث ۱ :- ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیحین میں

فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ إِلَّا الْأَذْخِرَ لِمَا غَنَيْنَا وَ
قُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخِرَ
یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مگر اذخر کہ
وہ ہمارے ساروں اور قبروں کے کام آتی
ہے فرمایا مگر اذخر۔

حدیث ۲ :- ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز صحیحین میں :-

قَالَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ إِلَّا
الْأَذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ
فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
الْأَذْخِرَ إِلَّا الْأَذْخِرَ۔
ایک مرد قریشی نے عرض کی مگر اذخر
یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کہ ہم
اُسے اپنے گھروں اور قبروں میں سرف کرتے
ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مگر اذخر مگر اذخر۔

حدیث ۳ :- صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنن ابن ماجہ میں :-

فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ إِلَّا الْأَذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ
وَالْقُبُورِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مگر
اذخر کہ وہ گھروں اور قبروں کے لئے ہے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

۱۲ و ۱۹۔ اٹھاون حدیثیں جن میں استفادہ کہ احکام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد ہیں۔

مگر اذخر۔

نیز میزان مبارک میں شریعت کی کئی قسمیں کیں ایک وہ جس پر وحی وارد ہوئی۔

یعنی شریعت کی دوسری قسم وہ ہے جو

مُصَافِحُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے بت

عزوجل نے ماذون فرمادیا کہ خود اپنی رائے

جو راہ چاہیں قائم فرمائیں۔ مردوں پر ریشم

کا پہننا حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اسی

طور پر حرام فرمادیا اور اسی طرح حرمت مکہ

سے گیاہ اذخر کو استثنا فرمادیا اگر اللہ عزوجل

نے مکہ معظمہ کی ہر جڑی بوٹی کو حرام نہ کیا ہوتا

تو حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو اذخر کے مستثنیٰ

فرمانے کی کیا حاجت ہوتی اور اسی قبیل

سے ہے حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا ارشاد

کہ اگر اُمت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں

عشار کو تہائی رات تک بٹھا دیتا اور اسی باب

سے ہے کہ جب حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام)

نے فرض حج بیان فرمایا کسی نے عرض کی

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم، کیا حج ہر

سال فرض ہے فرمایا نہ۔ اور اگر میں ہاں کہہ

دوں تو ہر سال فرض ہو جائے اور پھر تم سے

نہ ہو سکے گا اور یہی وجہ ہے کہ حضور (صلی اللہ

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم إلا اذخر

الثانی ما اباح الحق تعالیٰ

لنبيہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم ان یسنہ علی رأیہ هو

کتحریم لبس الحریر علی

الرجال وقولہ فی حدیث تحریم

مکة إلا اذخر ولولا ان

اللہ تعالیٰ کان یحرم جمیع

نبات الحریم لم یستن صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم اذخر و

نحو حدیث لولا ان اشق علی

أمتی لا خرت العشاء الی ثلث

اللیل ونحو حدیث لو قلت

نعم لو جبت ولم تستطیعوا فی

جواب من قال لہ فی فریضة

الحج اکل عام یا رسول اللہ

قال لا ولو قلت نعم لو جبت وقد

کان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

یخفف علی امتہ وینہاہم

عن کثرة السؤال ویقول

اُتْرُكُوْنِي مَا تَرَكَتُكُمْ اِه
باختصار
تعالیٰ علیہ وسلم، اپنی اُمت پر تخفیف و آسانی
فرماتے اور مسائل زیادہ پوچھنے سے منع کرتے
اور فرماتے مجھے چھوڑے رہو جب تک میں
تمہیں چھوڑوں۔

اقول یہ مضمون بھی کہ میں نمازِ عشر کو مؤخر فرما دیتا متعدد احادیث صحیحہ میں ہے :-
حدیث ۴ :- ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما معجم کبیر طبرانی میں کہ سید عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اگر ضعیف کے ضعف، مریض کے مرض
کا پاس نہ ہوتا تو میں نمازِ عشر کو پیچھے ہٹا
دیتا۔
لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَ
سُقْمُ السَّقِيْمِ لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ
الْعَتَمَةِ۔

حدیث :- آئندہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد و سنن ابی داؤد و ابن
ماجرہ وغیرہ میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-
اگر کمزور کی ناتوانی، بیمار کے مرض کا ہی کے
کام کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات
تک مؤخر فرما دیتا۔
لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَ سُقْمُ
السَّقِيْمِ وَ حَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ
لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى
شَطْرِ اللَّيْلِ۔

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِلَفْظِ لَوْلَا أَنْ يَشْتَمَلَ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ
صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ۔

حدیث :- آئندہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن ماجہ و محمد بن نصر کی روایت
میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم نے فرمایا :-
اگر اپنی اُمت کو مشقت میں ڈالنے کا
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ

العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل .
 لحاظ نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی یا ادھی رات تک بٹا دیتا۔

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فَقَالَ
 إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

اور ان کے سوا اور احادیث صحیحہ عنقریب اسی معنی میں آتی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ نیزیہ
 مضمون کہ میں ہاں فرما دوں تو حج ہر سال فرض ہو جلتے متعدد احادیث صحیح میں ہے :-
 حدیث ۵ :- ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ
 حدیث ۶ :- امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ
 ہر سال فرض نہیں اور میں ہاں کہہ دوں
 تو فرض ہو جاتے۔

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

حدیث ۷ :- ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم نے :-

لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ ثُمَّ
 إِذَا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تَطِيعُونَ
 میں ہاں فرما دوں تو فرض ہو جائے پھر
 تم نہ سنو نہ بجا لاؤ۔
 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

حدیث ۸ :- انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم نے :-

لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَوْ
 وَجِبَتْ لَعَرَّتْ قَوْمُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ
 اگر میں ہاں فرما دوں تو واجب ہو جائے
 اور اگر واجب ہو جلتے تم بجانہ لاؤ اور

تَقُومُوا بِهَا الْعُذْبَةُ - اگر بجا نہ لاؤ تو عذاب کئے جاؤ۔

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ اور مضمون اخیر کہ مجھے چھوڑے رہو یہ بھی صحیح مسلم و سنن نسائی میں اسی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے کہ فرمایا :-

لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ - اگر میں فرماتا ہاں تو ہر سال واجب ہو جاتا اور بے شک تم نہ کر سکتے۔

پھر فرمایا :-

ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

مجھے چھوڑے رہو جب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں کہ اگلی امتیں اسی کثرت سوال اور اپنے انبیاء کے خلاف مراد چلنے سے ہلاک ہوئیں تو جب میں تمہیں کسی بات کا حکم فرماؤں تو جتنی جلدی ہو سکے بجالاؤ اور جب کسی بات سے منع فرماؤں تو اسے چھوڑ دو۔

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُضَرَّزًا یعنی جس بات میں میں تم پر وجوب یا حرمت کا حکم نہ کروں اسے کھود کھود کر نہ پوچھو کہ پھر واجب یا حرام کا حکم فرما دوں تو تم پر تنگی ہو جائے۔

یہاں سے ^{۱۵۶۱۵} یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا نہ منع فرمایا وہ مبارک و بلا عرج ہے۔ وہابی اسی اصل اصیل سے جاہل ہو کر ہر جگہ پوچھتے ہیں کہ خدا و رسول نے اس کا کیا حکم دیا ہے؟ ان احمقوں کو اتنا ہی جواب کافی ہے کہ نہ رسول نے کہاں نہ کیا ہے؟ جب نہ حکم دیا نہ منع کیا تو جواز رہا تم جو ایسے کاموں کو منع کرتے ہو اللہ و رسول پر افتراء ہے بلکہ خود شارع بنتے ہو کہ شارع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو منع کیا نہیں اور تم منع کر رہے ہو مجلس میلاد مبارک و قیام و فاتحہ و

۱۵۶۱۵ امام ابن ماجہ نے حدیث کا یہ حصہ الگ روایت کیا۔

سوم وغیرہ مسائل بدعت و ہابیہ سب اسی اصل سے طے ہو جاتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت حجۃ الخلف بقیۃ السلف خاتمۃ المحققین سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد نے
کتاب مستطاب أصول الزشاد لقمع مبانہ الفساد میں
اس کا بیان اعلیٰ درجہ کا روشن فرمایا ہے فَنُورَ اللّٰهُ مَنزِلَهُ وَاكْرَمَ
عِنْدَهُ نُزْلَهُ اِمِيْن۔

امام احمد قسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں :

مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَخُصُّ
مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ۔
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص
کریمہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
شرعیات کے عام احکام سے جسے چاہتے
جس حکم سے چاہتے مستثنیٰ فرما دیتے۔

علامہ زرقانی نے شرح میں بڑھایا (مِنَ الْأَحْكَامِ) وَعَیْرِهَا کَچھ احکام ہی
کی خصوصیت نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جس چیز سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرمادیں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

امام جلیل جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے خصائص کبریٰ شریف میں ایک باب وضع فرمایا
بَابُ اخْتِصَاصِهِ صَلَّى اللهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ يَخُصُّ
مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ
باب اس بیان کا کہ خاص نبی ہی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے
کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔

امام قسطلانی علیہ الرحمۃ نے اس کی نظیر میں پانچ واقعات تحریر کئے اور امام سیوطی علیہ الرحمۃ
نے دس۔ پانچ وہ اور پانچ اور فقیر نے ان زیادات سے تین واقعات ترک کر دیئے
اور پندرہ اور بڑھائے اور ان کی احادیث بتوفیق اللہ تعالیٰ جمع کیں اور جملہ باتیں
واقع ہوئے وَبِاللّٰهِ الْحَمْدُ اُن کی تفصیل اور ہر واقعے پر حدیث سے دلیل سنیے۔

حدیث صحیحین ۱ :- میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اُن کے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی جب معلوم ہوا یہ کافی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم، وہ میں کر چکا اب میرے پاس چھ مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے فرمایا :-

اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تَجْزِيَ
عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
اُس کی جگہ اُسے کر دو اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسرے کی قربانی میں کافی نہ ہوگی۔

ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے نیچے ہے

خُصُوصِيَّةٌ لَّهِ لَا تَكُونُ
لِغَيْرِهِ اِذْ كَانَ لَهُ صَلَّى اللهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَخُصَّ مَنْ
شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْاَحْكَامِ
یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ایک خصوصیت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ

جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں

نیز حدیث صحیحین میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قربانی کے لئے جانور عطا فرمائے ان کے چھتے ششماہر بکری آئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حال عرض کیا فرمایا :- ضَحَّ بِهَا تَمَّ اِسَى كِي قَرْبَانِي كَر دُونَن بَهْتِي مِي بِنْدِ صَحْحِ اَنَا اَوْر زَانْدَهْ وَلَا رُخْصَةً فِيْهَا لِاَحَدٍ بَعْدَكَ تمہارے بعد اور کسی کے لئے اس میں رخصت نہیں۔

(پچھلے صفحہ کے حوالہ جات) ۱۵ و ۱۹۶ ایک اسی اصل سے مجلس میلاد و قیام و فاتحہ و رسوم وغیرہ تمام مسائل بدعت

دہا بیڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعہ ۱ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے شش ماہر بکری کی

قربانی جائز فرمادی۔ واقعہ ۲ ایک بار عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت کی۔

شیخ محقق اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں احکام مفوض
بود بوسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بر قول صحیح۔

حدیث ۱۱ صحیح مسلم میں اُمّ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے جب بیعتِ نناں
کی آیت اتری اور اُس میں ہر گناہ سے بچنے کی شرط تھی کہ لَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ
اور مُرُوءَةٍ پر بیان کر کے رونا چیننا بھی گناہ تھا میں نے عرض کی :-

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُلَانٍ
فَلَانَهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَلَا يَدُلُّنِي مِنْ أَنْ أَسْعِدَهُمْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم)
فلاں گھر والوں کو استثنا فرما دیجئے کہ انہوں
نے زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ ہو کر میرے ایک
میت پر نوحہ کیا تھا تو مجھے اُن کی میت پر
نوحے میں اُن کا ساتھ دینا ضرور ہے۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آلَ فُلَانٍ
اور سنن نسائی میں ہے ارشاد فرمایا اِذْهَبِي فَاَسْعِدِيهَا جَاؤُنَ كَا سَاحِدِي
آ۔ یہ گتیں اور وہاں نوحہ کر کے پھر واپس آ کر بیعت کی۔
ترمذی کی روایت میں ہے فَاَذِنَ لَهَا سَيِّدُ عَالَمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کہ انہیں نوحہ
کی اجازت دے دی۔

سند احمد میں ہے فَرِيَا اِذْهَبِي فَكَافِيَهُمْ جَاؤُنَ كَا بَدَلُهُ اُتَارَاؤُ
امام نووی اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خاص رخصت
اُمّ عطیہ کو دے دی تھی خاص آل فلاں کے بارے میں وَلِلشَّارِعِ اَنْ يَخْصَّ مِنْ
الْعُمُومِ مَا شَاءَ نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو اِخْتِيَارِهِ كِهْ عَامٍ سِي جُو چاہیں خاص

تہ واقعہ اُم عطیہ کو ایک جگہ نوحہ کرنے کی اجازت تحریر ہے

فرمادیں یہی مضمون۔

حدیث ۱۲: ابن مردودہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خولہ بنت

حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لئے ہے :-

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ

أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ

تعالیٰ علیک وسلم میرا باپ اور بھائی زمانہ

أَبِي وَأَخِي مَاتَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَوَلَّتْ

جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے اور فلاں

فَلَانَةٌ أَسْعَدَتْنِي وَقَدَّمَاتِ

عورت نے (نوحہ میں) میرا ساتھ دیا تھا

أَخُوهَا الْحَدِيثُ

اور اب اس کا بھائی مر گیا ہے۔ (مترجم)

حدیث ۱۳: ترمذی میں اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے

انہوں نے بھی ایک جگہ نوحے کا بدلہ اتارنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے انکار فرمایا۔

میں نے کسی بار حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام)

قَالَتْ فَرَأَيْتَهُ مَرَارًا فَأَذِنَ

سے عرض کی آخر حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے

لِي شَرُّ لِمَا نَحْبَعْدَ ذَلِكَ

اجازت دے دی پھر میں نے کہیں نوحہ نہ کیا۔

حدیث ۱۴: احمد و طبرانی میں مصعب بن نوح سے ہے ایک بڑی بیٹی نے

وقت بیعت نوحے کا بدلہ اتارنے کا اذن چاہا فرمایا :-

جاؤ عوض کر آؤ۔ (بدلہ اتار آؤ)۔

إِذْ هَبِي فَمَا فِيهِمْ

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ ہر شخصیت

أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّ كُلَّ

اس خاتون کے ساتھ خاص ہے جسے

رُخْصَةٌ تَخْتَصُّ بِصَاحِبَتِهَا لَا

واقعہ ۱: ایک بار خولہ بنت حکیم کو اجازت فرمادی واقعہ ۲: یوہیں اسماء بنت یزید کو ایک دفعہ کی

پر دانگی عطا کی۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ بی بی ام عطیہ ہوں لہٰذا واقعہ ۳: جبکہ نہ شمار ہوا۔ ۱۲ منہ

شِرْكَةً فِيهَا لغيرِهَا فَلَا يُعْكَرُ
 بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَنَّ
 هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّرْخِيصِ لِأَمِّ
 عَطِيَّةَ فِي آلِ فُلَانٍ خَاصَّةً وَ
 بِمِثْلِهِ يَنْدَفِعُ مَا اسْتَشْكَلُوا مِنْ
 التَّعَارُضِ فِي حَدِيثِي التَّضْحِيحَةِ
 لِأَبِي بُرْدَةَ وَعُقْبَةَ لِأَسِيْمَا مَعَ
 زِيَادَةَ الْبَيْهَقِيِّ الْمَذْكُورَةَ فَإِنَّهُ
 حُكْمٌ لَا خَبْرٌ وَلَا شَكٌّ أَنَّ الشَّارِعَ
 إِذَا خَصَّ أَبَا بُرْدَةَ كَانَ كُلُّ مَنْ
 سِوَاهُ دَاخِلًا فِي عُمُومِ عَدَمِ
 الْأَجْزَاءِ وَكَذَا حِينَ خَصَّ عُقْبَةَ
 فَصَدَقَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَنْ تُجْزَى
 أَحَدًا بَعْدَكَ فَافْهَمُ فَقَدْ خَفِيَ
 عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأَعْلَامِ

رخصت دی گئی، اس میں کسی دوسری
 عورت کے لئے شراکت نہیں ہے، ہمارے
 بیان سے امام نووی کے اس قول پر
 اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ یہ آل فلاں کے
 بارے میں خاص طور پر اُمّ عطیہ کے لئے
 رخصت دینے پر محمول ہے، ایسے ہی
 حضرت ابو بردہ اور حضرت عقبہ کی روایت
 کردہ قربانی کی دو حدیثوں کے درمیان
 تعارض کا اشکال دور ہو جائے گا، خصوصاً
 امام بیہقی کی مذکورہ زیادتی کے ساتھ، کیونکہ
 وہ حکم ہے اور خبر نہیں، اور اس میں
 شک نہیں کہ جب شارع علیہ السلام نے
 حضرت ابو بردہ کی تخصیص کر دی تو ان کے
 علاوہ ہر شخص ناکافی ہونے کے حکم کے عموم
 میں داخل ہوگا، اسی طرح جب حضرت عقبہ
 کی تخصیص فرمائی تو ہر دفعہ یہ فرمان سچ ہوگا کہ
 تمہارے بعد کسی کے لئے کافی نہیں، خوب
 اچھی طرح سمجھ لو کیونکہ یہ تحقیق بہت سے
 اکابر سے مخفی رہ گئی ہے۔ (مترجم)

حدیث ۱۵: طبقات ابن سعد میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے

واقعیہ اسماء بنت عمیس کو عدتِ وفات کا سوگ معاف فرما دیا۔

ہے جب اُن کے شوہر اول جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا :-

تَسَلَّبِي ثَلَاثًا شَعْرًا صَنَعِي مَا شِئْتِ
تین دن سنگار سے الگ رہو پھر جو چاہو کرو
یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کو اُس حکم عام سے استثناء فرما دیا کہ عورت
کو شوہر پر چار مہینے دس دن سوگ واجب ہے۔

حدیث ۱۱۶۔ ابنُ السکن میں ابو النعمان ازوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ایک
شخص نے ایک عورت کو پیام نکاح دیا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہر دو عرض
کی میرے پاس کچھ نہیں فرمایا :-

أَمَا تُحْسِنُ سُورَةَ مِّنَ الْقُرْآنِ
فَأُصَدِّقُهَا السُّورَةَ وَلَا يَكُونُ
لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا
کیا تجھے قرآنِ عظیم کی کوئی سورت نہیں
آتی وہ سورت سکھانا ہی اس کا مہر کر دو
تیرے بعد یہ پھر کسی اور کو کافی نہیں۔

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مُّخْتَصَرًا

حدیث ۱۱۷۔ ابی داؤد و نسائی و طحاوی و ابن ماجہ و خزیمہ میں عم عمارہ بن خزیمہ
بن ثابت انصاری

اور حدیث ۱۸۔ مصنف ابن ابی شیبہ و تاریخ بخاری و مسند ابی یعلیٰ و صحیح ابن خزیمہ
و معجم کبیر طبرانی میں خود حضرت خزیمہ

اور حدیث ۱۹۔ عارث بن اُسامہ میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا وہ بیچ کر مکر گئے اور گواہ مانگا
جو مسلمان آتا اعرابی کو جھڑکتا کہ خرابی ہو تیرے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق کے
سوا کیا فرمائیں گے (مگر گواہی کوئی نہیں دیتا کہ کسی کے سامنے کا واقعہ نہ تھا) اتنے میں

واقعہ ایک صاحب کو مہر کی جگہ صرف سورت قرآن سکھانا کافی کہہ دیا واقعہ خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو شہادت کی نصاب کامل کر دیا

غزیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوتے گفتگو سن کر بولے

بِتَّصَدِّيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (وَفِي
الثَّانِي) صَدَّقْتُكَ بِمَا جِئْتُ بِهِ
وَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا
(وَفِي الثَّلَاثِ) أَنَا أَصَدِّقُكَ عَلَى
خَبَرِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَصَدِّقُكَ
عَلَى الْأَعْرَابِ۔

یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم)
میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں
میں حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان
لایا اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے
آسمان و زمین کی خبروں پر حضور کی تصدیق
کرتا ہوں کیا اس اعرابی کے مقابلے میں
تصدیق نہ کروں۔

اس کے انعام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی گواہی دو مرد کی
شہادت کے برابر فرمادی اور ارشاد فرمایا :-

مَنْ شَهِدَ لَهُ حُزَيْمَةٌ أَوْ
شَهِدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ
غزیرہ جس کسی کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دے
ایک انہیں کی شہادت بس ہے۔

ان احادیث سے ثابت ہے کہ حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے قرآن عظیم کے حکم عام
وَأَشْهَدُ وَأُذَوِّي عَدْلٍ مِّنْكُمْ

سے غزیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ فرمادیا

حدیث ۲۰ :- صحاح ستہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نے بارگاہ
اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) میں بلاک ہو گیا فرمایا
کیا ہے عرض کی میں نے رمضان میں اپنی عورت سے نزدیکی کی۔ فرمایا غلام آزاد کر سکتا ہے
عرض کی نہ۔ فرمایا لگاتار دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے۔ عرض کی نہ۔ فرمایا ساٹھ
مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ عرض کی نہ۔ اتنے میں خرے خدمت اقدس میں لائے گئے

واقعہ ۹ ایک صاحب کے لئے روزے کا کفارہ خود ہی کھالینا جائز فرمادیا۔

حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا انھیں خیرات کر دے۔ عرض کی کیا اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں

رَحْمَتِ عَالَمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُنُّ كَرِهِنِي يَهَانَ تَمَكُّ كَرِ دَنْدَانِ مَبَارَكِ خَامِرُ تَوَجَّهِي
فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ اذْهَبْ فَاطْعِمْهُ

اور فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے

أَهْلَكَ .

مسلمانو گناہ کا ایسا کفارہ کسی نے بھی سنا ہو گا سوا دو من خرمن سرکار علیہ التمجیدۃ والثناء سے عطا ہوتے ہیں کہ آپ کھالو کفارہ ہو گیا۔ واللہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل دے ہاں ہاں یہ بارگاہِ بکس پناہ۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ كِي خِلَافَتِ كَبْرَى هِي هُنَّ كِي اِيك نِگَاهِ كَرَمِ كِبَارِ كُو حَسَنَاتِ كَرِ دِي تِي هِي جِبْ تُو اَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ حَتَّى جِلَالَةُ نِي نِي كِنَاهِ كَارُونَ خَطَا وَاَرُونَ تَبَاهِ كَارُونَ كُو اُنْ كَا دَرِ وَاَزِهِ بَتَا يَا كِي

گناہگار تیرے دربار میں حاضر ہو کر معافی چاہیں اور آپ شفاعت فرمائیں تو خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

جَاءُواكَ الْاِيَةِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . یہی مضمون

حدیث ۲۱۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور

حدیث ۲۲۔ مسند بزاز و معجم اوسط طبرانی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے

حدیث ۲۳۔ دارقطنی میں مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے ہے ارشاد فرمایا:-

كُلُّهُ اَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ تُو اُو دَرِ تِي رِي اِہْلِ وِعِيَالِ يِهْ خَرْمِي كَهَالِي

کہ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف سے کفارہ

كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ

ادافرما دیا۔

ہدایہ میں ہے فرمایا :-

تو اور تیرے بال بچے کھالیں تجھے کفایت
سے کفایت کرے گا اور تیرے بعد اور
کسی کو کافی نہ ہوگا۔

كُلُّ اَنْتَ وَعِيَالُكَ تَجْزِيكَ
وَلَا تَجْزِيْ اَحَدًا بَعْدَكَ

سنن ابی داؤد میں امام ابن شہاب زہری تابعی سے ہے۔

یہ خاص اسی شخص کے لئے رخصت تھی
آج کوئی ایسا کرے تو کفارہ سے چارہ
نہیں۔

اِنَّمَا كَانَ هَذِهِ رُخْصَةً
لَهُ خَاصَّةً وَلَوْ اَنَّ رَجُلًا فَعَلَ
ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمُيِّكُنْ لَهُ
بُدًّا مِّنَ التَّكْفِيْرِ

امام جلال الدین سیوطی وغیرہ علماء نے بھی اسے خصائص مذکورہ سے گنا و فی الحدیث
ووجوه اُحْر۔

حدیث ۲۲ :- صحیح مسلم و سنن نسائی و ابن ماجہ و مسند امام احمد میں زینب

بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا نے فرمایا ابو حذیفہ کی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ
تعالیٰ علیک وسلم) سالم (غلام آزاد کردہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما) میرے سامنے آتا
جاتا ہے اور وہ جوان ہے ابو حذیفہ کو یہ ناگوار ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
اَرْضِعِيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ
تم اسے دودھ پلا دو کہ بے پردہ تمہارے
پاس آنا جائز ہو جائے۔

ام المؤمنین ام سلمہ وغیرہ باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے فرمایا :-

واقعہ مذکور ایک صاحب کو جوانی میں ایک بی بی کا دودھ پینے کی اجازت دی اور اس سحرمت ضاعت ثابت فرمادی

ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ یہ رخصت حضور

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص
سالم کے لئے فرمادی تھی۔

مَا تَرَىٰ هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً

أَرُخِّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً

حدیث ۲۵ :- ابن سعد و حاکم میں بطریق عمرہ بنت عبد الرحمن خود پہلہ زوجہ

ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مضمون مذکور مروی کہ انہوں نے جب حال سالم عرض کیا

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دودھ پلا

دینے کا حکم فرمایا انہوں نے پلا دیا اور

سالم اُس وقت مرد جوان تھے جنگ بدر

شریف میں شریک ہو چکے تھے۔ جوان آدمی

کو اول تو عورت کا دودھ پینا ہی کب حلال

ہے اور پیئے تو اُس سے پسر رضاعی نہیں

ہو سکتا مگر حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے

ان حکموں سے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

مستثنیٰ فرما دیا۔

فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْضِعَهُ.

حدیث ۲۶ :- صحاح شمسہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔

یعنی عبد الرحمن بن عوف وزبیر بن العوام

رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بدن میں خشک

خارش تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے انہیں ریشمیں کپڑے کی اجازت عطا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ

فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ

واقعا :- دو صاحبوں کو ریشمیں کپڑے پہننے کی اجازت فرمادی

واقعہ ۱۲ :- مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو بحالت جنابت مسجد اقدس میں رہنا مباح فرما دیا۔

كَانَتْ بِهِمَا

فرمادی۔

حدیث ۲۷: ترمذی و ابی یعلیٰ و بہیقی میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے فرمایا

يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ

أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ

غَيْرِي وَغَيْرِكَ۔

داخل ہو۔

امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

حدیث ۲۸: مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جناب

امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی کو تین باتیں وہ دی گئیں کہ ان میں

سے میرے لئے ایک ہوتی تو مجھے سُرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی۔ (سُرخ اونٹ

عزیز ترین اموال عرب ہیں) کسی نے کہا یا امیر المؤمنین وہ کیا ہیں؟ فرمایا دختر رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شادی۔

وَسُكِّنَاهُ الْمَسْجِدَ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَحِلُّ لَهُ مَا يَحِلُّ لَهٗ۔

اور ان کا مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا کہ انہیں مسجد

میں رواتھا جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کو رواتھا۔

(یعنی بحال جنابت رہنا) اور روزِ خیبر کا نشان۔

حدیث ۲۹: معجم کبیر طبرانی و سنن بہیقی و تاریخ ابن عساکر میں اُمّ المؤمنین اُمّ سلمہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں

أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ

لِسُنِّ لَوْ يَمْسُجُ كَسِي جَنْبٍ كَوْ حَلَالٍ هِيَ نَهْ

واقعہ ۱۳۔ کہ محذراتِ اہلبیت طہارت کو بحالتِ عارضۃ ماہانہ مسجد مبارک میں آنا جائز فرما دیا۔

کسی حاضر کو مگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کی ازواج مطہرات و حضرت بتول زہرا اور مولیٰ علی کو صلی اللہ تعالیٰ علی الجیب علیہم وسلم سن لو میں نے تم سے صاف بیان فرمادیا کہ کہیں بہک نہ جاؤ۔

لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ إِلَّا بَيِّنْتُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

هَذِهِ رَوَايَةُ الطَّبْرَانِيِّ

حدیث ۳۰: صحیحین میں براء بن عاذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُفْطِيِّ بِمَهْنَةِ سَوْنَةٍ
بِأَيْهِمْ خُودِ بَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْكُفْطِيَّ طَلَاتِي بِمَهْنَةٍ. ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَسَبَهُ صَحِيحُ
ابو السفر سے روایت کی۔

قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ
میں نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا۔

وَرَوَى نَحْوَهُ الْبُعَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
امام احمد سند میں فرماتے ہیں :-

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمَ تَخْتَمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ
یعنی محمد بن مالک نے کہا میں نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا لوگ ان سے کہتے تھے آپ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی

واقعہ ۱۳ - براء بن عاذب کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت فرمادی

سے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے سامنے اموال غنیمت غلام و متاعِ حذر تھے حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) تقسیم فرما رہے

تھے سب بانٹ چکے یہ انگوٹھی باقی رہی۔ حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے نظر مبارک اٹھا کر اپنے اصحابِ کرام کو دیکھا پھر نگاہ نیچی کر لی اور پھر نظر اٹھا کر ملاحظہ فرمایا پھر نگاہ نیچی کر لی پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور مجھے بلایا اے براء میں حاضر ہو کر حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے سامنے بیٹھ گیا سید اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی لے کر میری کلانی تھامی پھر فرمایا لے پہن لے جو کچھ تجھے اللہ و رسول پہناتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم لوگ کیونکر مجھے کہتے ہو کہ میں وہ چیز اتار ڈالوں جسے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے پہن لے جو کچھ اللہ و رسول نے پہنایا۔ جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

حدیث ۳۱: دلائل النبوة بہیقی میں بطریق احسن مروی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يُقْسِمُهَا سَبِيٍّ وَحُرْتِيٍّ

قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْخَاتَمُ فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَرَاءٍ فَجِئْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبِضَ عَلَى كُرْسُو عِيٍّ ثُمَّ قَالَ خَذُ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

واقعہ ۱۵۔ سراقہ کو سونے کے کنگن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت سے پہناتے گئے۔

علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:-

كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِستَ
سَوَارِيكَ كَسْرِيَّ -

وہ وقت تیرا کیسا وقت ہوگا جب تجھے

کسرے بادشاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے

جب ایران زمانہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتح ہوا اور کسرے کے کنگن مکر بند

تاج خدمت فاروقی میں حاضر کئے گئے امیر المؤمنین نے انہیں پہنائے اور فرمایا اپنے

دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو:

اللہ بہت بڑا ہے سب خوبیاں اللہ کو

جس نے یہ کنگن کسرے بن ہرمز سے چھینے اور
سراقہ دیمقانی کو پہنائے۔

علامہ زرقانی نے فرمایا اس میں سونے کا

استعمال ہے اور وہ حرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ

حضرت سراقہ نے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کے معجزے کو ثابت کرنے کیلئے کیا،

یہ نہیں کہ وہ کنگن پہنے رہے ہوں،

کیونکہ مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے پر انہوں نے اتار

دیئے اور مال غنیمت میں شامل کر دیئے گئے

اور ایسا عمل شمار نہیں کیا جاتا۔

میں کہتا ہوں :- اے عظیم الشان

فاضل (علامہ زرقانی) اللہ تعالیٰ آپ

پر رحم فرمائے! معجزہ تو یہ ہے کہ

اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

سَلَبَهُمَا كِسْرِيَّ بْنَ هُرْمَزٍ وَالْبِسْمَا
سُرَاقَةَ الْأَعْرَابِيَّ -

قَالَ الْعَلَّامَةُ الزُّرْقَانِيُّ فِي

هَذَا اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَهُوَ حَرَامٌ

لِأَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَهُ تَحْقِيقًا لِمُعْجَزَةِ

الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَرَّهَمَا فَإِنَّهُ رُوِيَ

أَنَّهُ أَمْرَةٌ فَتَزَعَلُهَا وَجَعَلَهُمَا فِي

الْغَنِيمَةِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالَ آه

اقول رَحِمَكَ اللهُ مِنْ فَاضِلٍ

كَبِيرِ الشَّانِ إِنَّمَا الْمُعْجَزَةُ

إِخْبَارُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِأَنَّهُ يَلْبَسُ سَوَارِي كِسْرَى فَإِنَّمَا
تَحْقِيقُهَا يَلْبَسُهُ وَإِنَّمَا الْحَرَامُ
الْبُؤْسَ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْحُرْمَةِ
الْبُؤْسُ فَالْوَاضِحُ مَا جَنَحَتْ
إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ هَذَا تَرْخِيصٌ وَ
تَخْصِيصٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُرَاةٍ وَلَمْ
يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى
التَّمْلِيكِ فَمَعَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
مَا أَرْتَدَّ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ تُورَدُهُمَا
مَرَدَّهُمَا

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے خبر دی کہ حضرت سراقہ، شاہ ایران
کے کنگن پہنیں گے، اس معجزہ کی تحقیق
حضرت سراقہ کا کنگن پہننا ہے، اور پہننا
حرام ہے، حرمت کی شرط دیر تک
پہننے رہنا نہیں ہے (بلکہ فقط پہننا
حرام ہے) لہذا واضح وہ بات ہے
جو میں نے اختیار کی ہے اور وہ یہ کہ
یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
طرف سے حضرت سراقہ کو رخصت اور
خصوصیت عطا فرمانا ہے، حدیث
شریف میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو
انہیں مالک بنانے پر دلالت کرے،
لہذا امیر المؤمنین نے حدیث شریف کی
ہدایت پر عمل کیا، پھر وہ کنگن بال غنیت
میں شامل کر دیئے

حدیث ۳۲ :- طبقات ابن سعد میں مندر ثوری سے ہے امیر المؤمنین حضرت علی
وطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں گفتگو ہوئی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے (اپنے بیٹے
محمد بن حنفیہ ابوالقاسم کا) نام بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک رکھا اور کنیت بھی حضور

واقعہ ۱۶ - مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ کو اپنا نام و کنیت جمع کرنے کی اجازت فرمائی

(علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی کنیت حالانکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کے جمع کرنے سے منع فرمایا ہے امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے ایک جماعت قریش کو بلا کر گواہی دلوائی — کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین سے ارشاد فرمایا تھا۔

سَيُؤَلِّدُكَ بَعْدِي غُلَامٌ
فَقَدْ نَحَلْتَهُ اسْمِي وَكُنِّيَّتِي وَلَا
تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِّنْ أُمَّتِي بَعْدَهُ

عقرب میرے بعد تمہارے ایک لڑکا
ہو گا میں نے اُسے اپنے نام و کنیت دونوں
عطا فرمادیتے اور اُس کے بعد میرے کسی
اور اُمّتی کو حلال نہیں۔

۱۔ شیخ محقق اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں علماء ادریس مسئلہ اقوال ست و قول صواب ازیں مقالات آن ست کہ تسمیہ بنام شریف وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز بلکہ مستحب ست و تکتی بکنیت وے اگر چند بعد از زمان شریف وے باشد ممنوع و منع ازاں در ازاں زمان ممنوع قوی تر و سخت تر بود و ہمچنین جمع کردن میان نام و کنیت اخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممنوع بطریق اولیٰ و انکہ علی مرتضیٰ کرد مخصوص بود بوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و غیر اور اجائز نبود اہ

لکن فی التنبیہ من کان اسمہ محمدًا لا بأس بان یکنی ابا القاسم
وعللہ فی الدر بنسخ النہی محتجا یفعل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اقول وکیف یفید النسخ مع نص الحدیث نفسه ان ذلك كان
رخصة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى كرم الله تعالى وجهه
كما سيأتي والمرام يحتاج الى زيادة تحرير لا يرخص فيه غرابية
مقام والله تعالى اعلم ۱۲ منہ

مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں :-

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وُلْدِي
وُلْدٌ بَعْدَكَ أُسْمِيهِ بِاسْمِكَ
وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ فَقَالَ نَعَمْ
فَكَانَتْ رُحْصَةً مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ.

میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے بعد اگر میرے کوئی
لڑکا پیدا ہو تو میں حضور کا نام پاک اُس کا نام
رکھوں اور حضور کی کنیت اُس کی کنیت فرمایا
ہاں یہ مولیٰ علی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی رخصت تھی۔

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَابُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ فِي الْكُنْيَةِ
وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَالضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارِ
عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حدیث ۳۳ :- صحیح بخاری و ترمذی و مسند احمد میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے ہے غزوہ بدر میں حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زوجہ
امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں
مدینہ طیبہ میں شہزادی کی تیمارداری کے لئے ٹھہرنے کا حکم دیا اور فرمایا :-

إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ
شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ .

یہ خصوصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمادی حالانکہ جو حاضر جہاد نہ ہو
غنیمت میں اُس کا حصہ نہیں سنن ابی داؤد میں انھیں سے ہے۔

ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ وَلَمْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ كَلِمَةً مِّنْ حَقِّهِ مَقْرَرًا فَرَمَا يَا وَأَنَّ كَلِمَةً

واقعہ :- عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حاضری جہاد سہم غنیمت کا مستحق فرمادیا اور عطا فرمایا

يَضْرِبُ لِأَحَدٍ عَابَ غَيْرِهِ
 کسی غیر حاضر کو حصہ نہ دیا۔
حدیث - آئندہ کتاب الفتوح میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مین پر صوبہ کر کے بھیجا ان سے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے لئے رعایا کے ہدایا طیب کر دیے اگر کوئی شخص تمہیں ہدیہ دے جائے قبول کر لو۔ عبید بن صخر کہتے ہیں جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تیس غلام لائے کہ انہیں ہدیہ دینے گئے حالانکہ عاملوں کو رعایا سے ہدیہ لینا حرام ہے مسد ابولعلی بن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

هَدَايَا الْعُمَّالِ حَرَامٌ كُلُّهَا
 عاملوں کے سب ہدیے حرام ہیں
 مسد احمد و سنن بیہقی میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :-

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوبٌ
 عاملوں کے ہدیے خیانت ہیں۔
حدیث ۳۴ :- صحیحین میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ایک شخص (یعنی جان بن منقذ بن عمرو انصاری یا ان کے والد منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں فریب کھا جاتا ہوں (یعنی لوگ مجھ سے زیادہ قیمت لے لیتے ہیں) فرمایا :-

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لِأَحَدٍ
 جس سے خریداری کرو یہ کہہ دیا کرو کہ فریب
 زَادَ الْحَمِيدُ فِي مُسْنَدِهِ تُرَاثًا
 کی نہیں سہی پھر تمہیں تین دن تک اختیار ہے
 بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا
 (اگر ناموافق پاؤ بیع رد کر دو)

یہی مضمون حدیث ۳۵ :- سنن اربعہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے

واقعہ ۱۸ :- معاذ بن جبل کو اپنی رعیت سے تحائف لینا حلال فرما دیا۔

واقعہ ۱۹ :- ایک صاحب کے لئے بیع میں خیار مقرر فرما دیا۔

وَذَكَرَ قِصَّةَ وَلَمَّا يَذُكُرُ الزِّيَادَةَ

امام نووی شرح مسلم شریف میں فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ و امام شافعی علیہ الرحمۃ اور روایت اصح میں امام مالک وغیرہم اُمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک ضمن باعثِ خیال نہیں کتنا ہی غبن کھائے بیع کو رد نہیں کر سکتا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص انہیں کو نوازا تھا اوروں کے لئے یہیں یہی قول صحیح ہے۔

حدیث ۳۶ :- مشہور میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نماز سے ممانعت فرمائی۔

فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كُلِّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَعَنْ عُمَرَو بْنِ عَبَّاسَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

خود اُم المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس ممانعت کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں رواہ ابوداؤد فی سننہ با ایں ہم اُم المؤمنین عصر کی دو رکعتیں پڑھا کرتیں۔

رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ وَالصَّوْرِيِّ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَسْلَوْهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ جَمِيعًا وَسَلَّمْنَا عَنْ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ لَهَا بَلَّغْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيْنَهُمَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا.

علماء فرماتے ہیں یہ اُم المؤمنین کی خصوصیت تھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے جائز کر دیا تھا۔

واقعہ ۲۰ :- کہ اُم المؤمنین کو عصر کے بعد دو رکعت نفل جائز فرما دیئے

قَالَهُ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ خَاتَمُ الْحُقَاقِطِ الشُّيُوطِيُّ فِي أُنْمُودِجِ اللَّيْبِ
شَرَّ الزُّرْقَانِي فِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ

حدیث ۳۷ :- صحیحین و مسند احمد و سنن نسائی و صحیح ابن حبان میں ام المؤمنین سیدہ

صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

اور حدیث ۳۸ :- احمد و مسلم و ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابن حبان میں حضرت

عبداللہ بن عباس

اور حدیث ۳۹ :- احمد و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابونعیم و بہیقی میں ضباعہ بنت زبیر

اور حدیث ۴۰ :- بہیقی و ابن مندہ بطریق ہشام عن ابی الزبیر

حضرت جابر بن عبداللہ

اور حدیث ۴۱ :- احمد و ابن ماجہ و طبرانی میں جدۃ ابی بکر بن عبداللہ بن زبیر یعنی اسماء

بنت صدیق یا سعدے بنت عوف

اور حدیث ۴۲ :- طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے حضور

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا حج کا ارادہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیک وسلم، واللہ میں تو اپنے آپ کو بیمار ہی پاتی ہوں (یعنی گمان ہے کہ مرض کے باعث ارکان
ادانہ کر سکوں پھر احرام سے کیونکر باہر آؤں گی فرمایا :-

أَهْلِيَّ وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحِلِّي

حَيْثُ حَبَسْتَنِي -

لے کہ الہی جہاں تو مجھے روکے گا وہیں میں

احرام سے باہر ہوں۔

نسائی نے زائد کیا :-

واقعه ۲۱ :- ایک بی بی کو احرام میں شرط لگانا جائز فرمادیا

فَانَّ لَكَ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَشَيْتَ
تمہارا یہ استنار تمہارے رب کے یہاں
مقبول رہے گا۔

ضباعہ نے زائد کیا کہ فرمایا :-

فَانَّ حِجَّتِ أَوْ مَرَضَتْ فَقَدْ
اب اگر تم حج سے روکی گئیں یا بیمار پڑیں تو
حَلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ بِشَرِّطِكَ عَلَى
اس شرط کے سبب جو تم نے اپنے رب عزوجل
رَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ۔
پر لگالی ہے احرام سے باہر ہو جاؤ گی۔

ہمارے آئمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں یہ ایک خاص اجازت تھی کہ حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انھیں عطا فرمادی ورنہ نیت میں ایسی شرط اصلاً مقبول و معتبر نہیں۔
بَلْ وَاَفْقَنَا عَلَىٰ اِخْتِصَاصِهِ بِهَا بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَالْخَطَابِيِّ ثُمَّ
الرُّوْيَانِيِّ كَمَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي لِلْاِمَامِ الْعَيْنِيِّ مِنْ بَابِ الْاِحْصَارِ حَتَّىٰ كَمَا

حدیث ۴۳۳ :- مسند امام احمد میں بسند ثقافت رجال صحیح مسلم ہے :-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا
یعنی ایک صاحب خدمت اقدس حضور
سَيِّدِ عَالَمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاضِرِهِ
اس شرط پر اسلام لائے کہ صرف دو ہی نمازیں
پڑھا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
قبول فرمایا۔
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ أَنَّهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا
يُصَلِّيُ إِلَّا صَلَاتَيْنِ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ

ان کے سوا امام جلیل جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب مستطاب النموذج البلیب
فی خصائص الجیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک محل فہرست میں نو واقعوں کے اور پتے دیئے
ہیں کہ فقیر نے ان تین کی طرح یہ بھی ترک کر دیئے لِوُجُوهِ يَطَّلُ اِلَيْهَا وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

واقعہ ۲۲ :- ایک شخص سے اس شرط پر اسلام قبول فرمایا کہ دو نمازیں نہ پڑھے گا۔

عَلَى تَوَاتُرِ الْإِسْنَةِ - تینتالیس حدیثیں یہ اور آٹھ حدیث بالائی دربارہ تحریم مدینہ طیبہ جملہ اکاون احادیث ہیں جن میں بہت از روئے اسناد بھی خاص مقصود رسالہ کے مناسب تھیں اور بحیثیت تذیل و ہابہ و تزییل و تجہیل امام الوہابہ تو سب ہی مقصود عام رسالہ کے ملائم ہیں انہیں بھی گنیے تو شمار احادیث یہاں تک ایک سو چھیانوے ہو مگر ہمارے نبی کریم رؤف و رحیم علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ و التسلیم نے ارشاد فرمایا ہے :-

بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان
 کرنا مقرر فرما دیا ہے تو جب تم کسی کو قتل کرو
 تو قتل میں بھی احسان کرو اور ذبح کرو تو ذبح
 میں بھی احسان برتو۔

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا
 الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ

أَحْمَدُ وَالسَّيْتَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

لہذا میرا غامہ تیغبار نجدی شکار اپنے مقتولین مخذولین مذبورین مقبوحین حضرات و ہابہ پر احسان کے لئے یہ پچاسا شمار سے الگ رکھتا اور بتوفیق اللہ تعالیٰ آگے صرف وہ بعض احادیث کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جلائل احکام تشریحیہ کی صریح اسنادوں پر مشتمل اور وہ کہ ان دلائل تفویض احکام بحضور سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی مؤید و مکمل ہیں لکھتا ہے ان میں مویذات تفویض کی تقدیم کیجئے کہ اس بحث کا سلسلہ رہے وباللہ التوفیق۔

حدیث ۱۲۶ :- حدیث صحیح جلیل سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ و مسند امام طحاوی و

معجم طبرانی و معرفت بہتقی کُلُّهُم بِطَرِيقٍ مَنْصُورٍ بِنِ الْمُعْتَمِرِ عَنِ اِبْرَاهِيْمَ
 التَّيْمِيِّ عَنْ عُمَرُ وَبْنِ مَيْمُونٍ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ
 ثَابِتٍ اِلَّا ابْنَ مَاجَةَ فَعَنْ سُوْفِيَانَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عُمَرُ
 وَبْنِ مَيْمُونٍ عَنْ خُزَيْمَةَ كَهْ حَضْرَتِ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ اِنصاری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
 عَنْهُ فَرَمَاتے ہیں :-

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے
مسح موزہ کی مدت تین رات مقرر فرمائی ہے
اور اگر مانگنے والا مانگتا رہتا تو ضرور حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام پانچ راتیں کر دیتے۔

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا وَلَوْ
مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا
خَمْسًا

یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور روایت ابی داؤد اور ایک روایت معانی الآثار ابی جعفر اور

ایک روایت بیہقی میں ہے فرمایا :-

اگر ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ مانگتے
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدت اور بڑھا دیتے۔

وَلَوْ اسْتَزَدْنَا لَزَادَنَا

دوسری روایت طحاوی میں ہے :-

بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
مسح موزہ کی مدت مسافر کے لئے تین رات
دن اور مقیم کے لئے ایک رات دن کر دی
اور اگر مانگنے والا مانگتا رہتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
اور زیادہ مدت عطا فرماتے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ عَلَى
الْخَفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ
لِيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَكَلِيلَةً وَلَوْ
أَطْنَبَ لَهُ السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَزَادَهُ

بیہقی کی روایت آخری یوں ہے :-

وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ
فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهُ خَمْسًا

خدا کی قسم اگر سائل عرض کئے جاتا تو حضور
(علیہ الصلوٰۃ والسلام) مدت کے پانچ دن کر دیتے۔

یہ حدیث بلاشبہ صحیح سند ہے اس کے سب رواۃ اجلہ ثقات ہیں۔ لاجرم امام ترمذی
نے اسے روایت کر کے فرمایا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ یہ حدیث حسن صحیح ہے

نیز امام الشان یحییٰ بن معین سے نقل کیا یہ حدیث صحیح ہے :-

وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ فَإِنَّمَا الْمَخْرَجُ الْمَخْرَجُ وَالطَّرِيقُ

الطَّرِيقُ حَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَاسِعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ
 بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ
 أَطَالَ الْإِمَامُ ابْنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ الْكَلَامَ فِي تَقْوِيَةِ هَذَا الْحَدِيثِ
 وَالذَّبِّ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ الْإِمَامِ وَأَثَرُهُ الْإِمَامُ الزُّبَيْرِيُّ فِي نَصَبِ
 الرَّايَةِ فَرَأَجَعَهُ إِنْ شِئْتَ لَهُ

له اعظم ما يرقاب به فيه رواية البيهقي عن الترمذي عن البخاري لا يصح
 عندي لانه لا يعرف لابي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة
 ع وتلك شكاة ظاهر عنك عارها : فان مبناه على ما ذهب اليه هو رحمه الله
 من اشتراط ثبوت السماع ولو مرة للاتصال والصحيح الاجتزاء بالمعاصرة
 هو المنصور وعليه الجمهور كما افاده المحقق على الاطلاق في فتح القدير
 وقد اطال مسلم في مقدمة صحيحه في الرد على هذا المذهب لاجرم ان
 لم يكثر به تلميذه الترمذي وحكم بانه حسن صحيح وكذا حكم
 بصحته شيخ البخاري امام الناقدين يحيى بن معين اقول علا انه لو سلم
 فقصواه الانقطاع وليس بقادح عندنا وعند سائر قبلي المراسيل وهم
 الجمهور ثم لا عليك من دندنة ابن حزم ان الجدلي لا يعتمد على روايته
 فان الرجل في الجرح والوقية كالأعميين السيل الهجوم والبعير
 الصئول حتى عد الترمذي من المجاهيل والجدلي فقد وثقه الامامان
 المرجوع اليهما احمد بن حنبل وابن معين فها هو ابن حزم وايش ابن حزم بعد هذين
 وهو متفرد فيه لم يسبقه احد بهذا القول الا ترى ان البخاري انما اعلمه اذا علمه بانه لم
 يعرف سماع الجدلي لابانها واية الجدلي وقد صحح له الترمذي وقال في التقريب ثقة والله اعلم ۱۳ منه

اقول یہ حدیث صحیح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفویض و اختیار میں نص صریح ہے ورنہ یہ کہنا اور کہنا بھی کیسا متوکلہ بقسم کہ واللہ سائل مانگے جاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانچ دن کر دیتے۔ اصلاً گنجائش نہ رکھتا تھا کَمَا لَا يَخْفَىٰ اور یہاں جزم خصوصاً بے جزم عموم نہ ہو گا کہ اس خاص کی نسبت کوئی خاص تخییر ارشاد نہ ہوتی تھی تو جزم کا نشا و ہی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ احکام سپرد اختیار حضور سید الانام ہیں علیہ و علیٰ آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام۔

حدیث ۱۲۷ :- مالک و احمد و بخاری و مسلم و نسائی و ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَىٰ اُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ
بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
اگر مشقت اُمت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرما دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں

علماء فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے قَالَ فِي التَّيْسِيرِ وَعَنْبِرٍ

احمد و نسائی نے انھیں سے بسند صحیح یوں روایت کی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَىٰ اُمَّتِي
اُمت پر دشواری کا لحاظ نہ ہو تو میں ان پر
لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ
فرض کر دوں کہ ہر نماز کے وقت وضو کریں
وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسُوَاكٍ
اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔

اقول :- امر دو قسم ہے حتمی جس کا حاصل ایجاب اور اُس کی مخالفت معصیت و ذلک قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِی۔ دوسرا ندبی جس کا حاصل ترغیب اور اُس کے ترک میں وسعت و ذلک قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرٌ بِالسُّوَاكِ حَتَّىٰ خَشِيتُ اَنْ يَكْتُبَ عَلَيَّ اَحْمَدُ عَنْ وَاثِلَةَ ابْنِ الْاَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ امر ندبی تو یہاں قطعاً حاصل ہے تو ضرور نفی حتمی کی ہے امر حتمی بھی دو قسم ہے ظنی جس کا مفاد وجوب اور قطعی جس کا مقتضی

فرضیت ظنیت خواہ من جہت الروایۃ یا من جہت الدلالۃ ہمارے حق میں ہوتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم سب قطعی یقینی ہیں جن کے سررہہ عزت کے گردنوں کو اصلاً بار نہیں تو قسم واجب اصطلاحی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں متحقق نہیں وہاں یا فرض ہے یا مندوب نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ حَيْثُ أُطْلِقَ فِي الْفَتْحِ -

اب واضح ہو گیا کہ ان ارشاداتِ کریمہ کے قطعاً یہی معنی ہیں کہ میں چاہتا تو اپنی امت پر ہر نماز کے لئے تازہ وضو اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنا فرض فرما دیتا مگر انکی مشقت کے لحاظ سے میں نے فرض نہ کئے اور اختیار احکام کے کیا معنی ہیں؟ وَاللَّهِ الْحَمْدُ۔
حدیث ۱۲۸ :- مالک و ثنائی و بیہقی اُن سے اور طبرانی اوسط میں امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے بسند حسن راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :-

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ كُلِّ
وَضُوءٍ -
مشقت امت کا پاس ہے ورنہ
میں ہر وضو کے ساتھ مسواک اُن پر فرض
کر دوں۔

حدیث ۱۲۹ :- کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم :- مسواک کرو کہ مسواک
منہ کو پاکیزہ اور رب عزوجل کو راضی کرتی ہے جب میرے پاس حاضر ہوتے مجھے
مسواک کی وصیت کی ۔

حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَفْرِضَهُ
عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ
أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ
یہاں تک کہ بیشک مجھے اندیشہ ہوا کہ جبیر
مجھ پر اور میری امت پر مسواک فرض کر
دیں گے اور اگر مشقت امت کا خوف نہ
ہوتا تو میں اُن پر فرض کر دیتا۔

ابن ماجہ عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه

یہاں جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف بھی فرض کر دینے کی اسناد ہیں :-
حدیث ۱۵۰۔ طبرانی دہزار و دارقطنی و حاکم حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ
 لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ عِنْدَ
 كُلِّ صَلَاةٍ (زَادَ غَيْرُ الدَّارِقُطَنِيِّ)
 كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءَ

مُشَقَّتِ اُمَّتِ كَالْحَاظِ نَهْهُ تُوْمِيْنَ هِرْ نَمَازِ
 كِے دِقْتِ اُنْ پِرْ سَوَاكِ فِرْضِ كِرْ دُوْنِ حِسْ طِرْحِ
 مِيْنَ نِے وَضُوْا نِ پِرْ فِرْضِ كِرْ دِيَا هِيْ هِيَا وَضُوْ
 كُو بِيْ فِرْمَا يَا كِيَا كِرْ حَضُوْرِ اِقْدَسِ صَلِي اللّٰهُ تَعَالٰى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِے اِبْنِيْ اُمَّتِ پِرْ فِرْضِ كِرْ دِيَا۔

^{۵۰، ۴۹}
حدیث ۱۵۱، ۱۵۲ :- فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم :-

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ
 لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ وَالطَّيْبِ عِنْدَ
 كُلِّ صَلَاةٍ

مُشَقَّتِ اُمَّتِ كَا خِيَالِ نِهْ تُوْ اِبْنِيْ اُمَّتِ
 پِرْ ہر نَمَازِ كِے دِقْتِ سَوَاكِ كِرْ نَا اُوْرْ خُوْشْبُوْ لُكَا نَا
 فِرْضِ كِرْ دُوْنِ۔

أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السَّوَاكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْهُمَا بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَسَعِيدٍ بِنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا
 یہاں خوشبو کی فرضیت بھی زائد فرمائی۔

حدیث ۱۵۳ :- کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ
 لَأَمَرْتُهُمْ اَنْ يَسْتَاكُوْا بِالْاَسْحَارِ

مُشَقَّتِ اُمَّتِ كَا اَنْدِيْشِهْ نِهْ ہُوْ تُوْمِيْنَ اُنْ پِرْ
 فِرْضِ فِرْمَا دِيَا كِرْ ہر سَحْرِ پِھلے پِہر اُٹھ كِرْ سَوَاكِ كِرِيْنَ۔

أَبُو نُعَيْمٍ فِي السَّوَاكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا۔

^{۵۳، ۵۲}
حدیث ۱۵۴، ۱۵۵ :- فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ
 مُشَقَّتِ اُمَّتِ كَا خِيَالِ نِهْ ہُوْ تُوْمِيْنَ ہر نَمَازِ

کے وقت اُن پر مسواک فرض کر دوں اور
نمازِ عشاء کر تہائی رات تک ہٹا دوں۔

لَا مَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ
صَلَاةٍ وَلَا خَرَّتْ الْعِشَاءُ إِلَى
ثُلُثِ اللَّيْلِ

أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالضَّبْيَاءُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ بْنِ الْجُهَيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالْبَزَّازُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى
وَجْهَهُ وَرَوَى عَنْ زَيْدِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
الْأَوَّلِ بِالْإِقْتِصَارِ عَلَى الشَّطْرِ الْأَوَّلِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَحَدِيثِ زَيْدِ هَذَا

یعنی میں وضو میں مسواک فرض کر دیتا اور
نمازِ عشاء آدھی رات تک ہٹا دیتا۔

وَفِيهِ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ
السَّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَا خَرَّتْ
صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْأَخْرَةَ إِلَى
نِصْفِ اللَّيْلِ

وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ

میں اُن پر فرض کر دیتا کہ عشاء دیر کر کے
پڑھیں اور ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔

لَا مَرْتَهُمْ بِتَاخِيرِ الْعِشَاءِ
وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

حدیث ۱۵۶ :- فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اُمّت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اُن پر فرض
کر دیتا کہ عشاء آدھی رات کو پڑھیں۔

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي
لَا مَرْتَهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا هَكَذَا يَعْنِي
الْعِشَاءَ نِصْفَ اللَّيْلِ

أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمَا

حدیث ۱۵۷: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :-

اگر ناتوانوں اور بیماروں کا لحاظ نہ ہوتا تو

لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقُورُ

میں فرض کر دیتا کہ یہ نماز آدھی رات تک

السَّقِيمِ لَأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ

مؤخر کریں۔

أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ۔

النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَاحِدِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَرَّتْ رِوَايَةٌ

أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَأَبْنِي مَاجَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ بِإِلْفِظِ الْأَمْرِ۔

حدیث ۱۵۸: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

مشقتِ امت کا اندیشہ نہ ہو تو میں ان پر

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي

فرض کر دوں کہ عشاء میں تہائی یا آدھی رات

لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرَ وَالْعِشَاءُ إِلَى

تک تاخیر کریں۔

ثَلَاثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ۔

أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَبْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

سبب هذا انه صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ ذات ليلة صلاة العشاء حتى

ابهار الليل او ذهب عامة الليل ونام النساء والصبيان فجاء فصله وذكره كما

ورد مبينا في احاديث ابن عباس وابي سعيد وابن عمر وانس وعائشة وغيرهم

رضي الله تعالى عنهم وسبب حديث السواك اتيان ناس عنده صلى الله تعالى عليه

وسلم قلحا فقال استاكوا استاكوا لان اتوني قلحا لولا ان اشق على امتي لفرضت

عليهم السواك عند كل صلاة كما بينه الدارقطني من حديث العباس رضي

الله تعالى عنه فهما حديثان ربما افرزهما ابو هريرة وربما جمع

وكذلك غيره رضي الله تعالى عنهم وان اتفق ان النبي صلى الله تعالى

عليه وسلم هو الذي قال مرة هكذا وتارة جمع فالتعدد اظهر واكثر

والله تعالى اعلم ۱۲ منه دامت فيوضه

تَعَالَى عَنْهُ وَمَرَّتْ أُخْرَى لِابْنِ مَاجَةَ كَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَمُحَمَّدَ بْنَ
نَصْرِ خَالِيَةَ عَنِ الْأَمْرِ -

حدیث ۱۵۹ :- صحیح بخاری میں زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک

آیت سُوْرَة اعراب کی نسبت ہے :-

وَجَدْتُهُمْ مَعَ خُزَيْمَةَ الَّذِي

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ

وہ میں نے لکھی ہوئی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہ کے پاس پائی جن کی گواہی رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر فرمائی

حدیث ۱۶۰ :- کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کو یمن پر صوبہ دار بنا کر بھیجے وقت اُن سے ارشاد فرمایا :-

إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ بِلَاءَكَ فِي

الدِّينِ وَالَّذِي قَدَّرَكَ مِنْ

الدِّينِ وَقَدْ طَيَّبْتُ لَكَ الْهُدْيَةَ

فَإِنْ أَهْدَى لَكَ شَيْئًا فَاقْبَلْ -

مجھے معلوم ہے جو تمہاری آزمائشیں دین میں

میں ہو چکیں اور جو کچھ دین تم پر ہو گئے ہیں

رعیت کے تحفے میں نے تمہارے لئے حلال

طیب کر دیے جو تمہیں تحفے دے دے لے لو۔

سَيِّفًا فِي كِتَابِ الْفُتُوْحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ صَخْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حدیث ۱۶۱ :- فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ تو میں نے

معاف فرمادی۔ روپوں کی زکوٰۃ دوہر چالیس

درہم سے ایک درہم۔

قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

فَهَا تُوَاصِدُ الرِّقَّةَ بَيْنَ كُلِّ

أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا -

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْتَضِي رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ -

لے یہاں تک اٹھاؤں حدیثیں تفویض احکام کی مفیدات و معنیات مذکور ہوئیں آگے صرف اسنادات جلیلہ ہیں ۱۲۰ منہ

سواری کے گھوڑوں، خدمت کے غلاموں میں زکوٰۃ جو واجب نہ ہوتی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میں نے معاف فرمادی ہے ہاں کیوں نہ ہو کہ حکم ایک رؤف و رحیم کے ہاتھ میں ہے بحکم رب العالمین جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حدیث ۱۶۲ :- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ

عنہم سے فرمایا :-

مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا۔

زنا کو کیسا سمجھتے ہو۔

قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَ

عرض کی حرام ہے اُسے اللہ و رسول نے حرام کر دیا۔ تو وہ قیامت تک حرام ہے۔

رَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ

الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔

حدیث ۱۶۳ :- فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

إِنِّي أُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ حَوَائِ

میں تم پر حرام کرتا ہوں دو کمزوروں کی حتی تلفی

الضَّعِيفِينَ الْيَتِيمَ وَالْمَرْأَةَ

یتیم اور عورت۔

الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔

حدیث ۱۶۴ :- صحیحین میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے انہوں

نے سال فتح مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا :-

بے شک اللہ اور اُس کے رسول نے حرام

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ

کر دیا ہے شراب اور مردار اور سُور او

الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخَنزِيرَ وَالْأَصْنَامَ

بہتوں کا بیچنا۔

حدیث ۱۶۵ :- فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :-

لَا تَشْرَبُ مُسْكِرًا فَإِنَّ حَرَمَتُ
كُلِّ مُسْكِرٍ

نشہ کی کوئی چیز نہ پی کہ بے شک نشہ کی
ہر چیز میں نے حرام کر دی ہے

النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حدیث ۱۶۶ :- فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن لو مجھے قرآن کے ساتھ اس کا
مثل بلا یعنی حدیث دیکھو کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر بیٹھا یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لئے رہو جو اس
میں حلال ہے اُسے حلال جانو جو اس میں حرام ہے اُسے حرام مانو۔

لہ فائدہ :- ابوشیخ ابن جان نے کتاب الثواب میں روایت کی حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ثَنَا
عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْوَصَّائِي ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُوسَى ثَنَا رِبَّاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ مَعْمَرِ
عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِي قِرَاءَةَ يَسِّ كُلِّ لَيْلَةٍ فَمَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَائَتِهَا
كُلَّ لَيْلَةٍ تَمَّتْ مَاتَ شَهِيدًا یعنی اس سند سے آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا میں نے اپنی امت پر یس شریف کی ہر رات تلاوت فرض کی جو ہمیشہ ہر شب اُسے پڑھے پھر مرے
شہید مرے۔ اَقُولُ وَمَسْعِدٌ وَإِنَّهُمْ فَالْحَقُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْوَضْعَ
لَا يَثْبُتُ بِمَجْرَدِ تَفَرُّدٍ كَذَّابٍ فَضْلًا عَنْ مَتِّهِمْ مَّا لَمْ يَنْصُرْ إِلَيْهِ شَيْءٌ
مِّنَ الْقُرْآنِ الْحَاكِمَةَ بِهِ كَمُخَالَفَةِ نَصِّ أَوْ إِجْمَاعِ قَطْعِيِّينَ أَوْ إِحْسِ أَوْ إِقْرَارِ
الْوَاضِعِ بِوَضْعِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ السَّنَاوِيُّ فِي فَتْحِ الْمُغِيثِ
وَأَثْبَتْنَا عَلَيْهِ عَرْشَ التَّحْقِيقِ فِي مُنِيرِ الْعَيْنِ فِي حُكْمِ تَقْبِيلِ الْأَبْهَامِيِّينَ وَاجْمَعَ
الْعُلَمَاءُ أَنَّ الضَّعِيفَ غَيْرَ الْمَوْضُوعِ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْهَادِ
الْكَا فِي حُكْمِ الضَّعَافِ۔ اس حدیث اور اس فرضیت کے متعلق فقیر کے پاس سوال آیا تھا جس

کا جواب فتاویٰ فقیر العطا یا النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ کی مجلہ پنجم کتاب مسائل ششہ میں مذکور و اللہ

الْهَادِي إِلَى مَعَالِي الْأُمُورِ ۱۲ مِنْهُ

وَأَنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ
جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی
اُسی کی مثل ہے جسے اللہ عزوجل نے حرام کیا
جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

أَحْمَدُ وَالِدَارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبُرْهَانِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ
مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ
یہاں صراحتاً حرام کی دو قسمیں فرمائیں ایک وہ جسے اللہ عزوجل نے حرام فرمایا دوسرا وہ جسے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام کیا اور فرما دیا کہ وہ دونوں برابر دیکھاں ہیں۔
اقول مراد واللہ اعلم نفس حرمت میں برابری ہے تو ارشاد علماء کے منافی نہیں کہ خدا کا
فرض رسول کے فرض سے اشد و اقوی ہے۔

حدیث ۱۶۷: - جہیش بن ادیس نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع اپنے چند اہل قبیلہ کے

باریاب خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے قصیدہ عرض کیا ازاں حمد
یہ اشعار ہیں

الْأَيُّرَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ مُصَدِّقٌ
فَبُورِكَتِ مَهْدِيًّا وَبُورِكَتِ هَادِيًّا
شَرَعْتَ لَنَا دِينَ الْخَيْفَةِ بَعْدَ مَا
عَبَدْنَا كَمَا مَثَالِ الْحَمِيرِ طَوَاغِيًّا

یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) حضور تصدیق کئے گئے ہیں حضور اللہ عزوجل سے عنایت
پانے میں بھی مبارک اور خلق کو ہدایت عطا فرمانے میں بھی مبارک حضور ہمارے لئے دین اسلام کے
شارع ہوئے بعد اس کے کہ ہم گدھوں کی طرح بتوں کو پوج رہے تھے۔

إِبْنُ مَنْدَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ الْجُبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ۔

۱۹۸ حرام دو قسم ہے ایک خدا کا حرام اور ایک رسول کا اور دونوں یکساں ہیں۔

یہاں صراحتاً^{۱۹۹} تشریح کی نسبت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ شریعت اسلامی حضور کی مقرر کی ہوئی ہے، لہذا قدیم سے عرف علمائے کرام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شارع کہتے ہیں علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں :-

قَدْ اَشْتَهَرَ اِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِانَّهُ
سَيِّدُ عَالَمٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَسَّارِ
كُنَا مَشْهُورًا وَمَعْرُوفًا هُوَ اس لَيْ كَهْ حُضُورُنَا
دِينِ مَتِينٍ وَاحْكَامِ دِينِ كِي شَرِيْعَتِ نَكَالِي

اسی قدر پر بس کیجئے کہ اس میں سب کچھ آگیا۔ ایک لفظ شارع تمام احکام تشریحیہ کو کو جامع ہوا۔ میں نے یہاں وہ احادیث نقل نہ کیں جن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف امر نہی و قضا و امثالہا کی اسناد ہے کہ

اَمْرٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتْنِي حَدِيْثًا فِي دَارِ
جَنِّ كِي جَمْعُ كُو اِيْكَ مَجْلِدُ كَبِيْرٍ بِيْهِ كَانِي نُو هُو اُو رُو قُرْآنِ عَظِيْمٍ نُو جُو اَرشَادِ فَرْمَا يَا :

وَمَا اَتَكُمُ الرّسُوْلُ فَخُذُوْهُ
وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوْا
جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لو اور جس سے
منع فرماتے باز رہو۔

کہ امر و نہی و قضا اوروں کی طرف بھی اسناد کرتے ہیں قال اللہ تعالیٰ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوا الرّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ مجھے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضور اقدس کو احکام شرعیہ سے فقط آگاہی و واقفیت کی نسبت نہیں جس طرح وہ سرکش طاعنی آخر تقویۃ الایمان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صریح افتراء کر کے کہتا ہے انہوں نے فرمایا کہ سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو یہی ہے اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں اور لوگ غافل۔

۱۹۹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے شارع ہیں۔

۲۰۰ امام الوہابیہ کا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صریح افتراء۔

مُسلمانوں لہذا انصاف اس کس ناکس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل جلیلہ وخصائص جمیدہ وکمالات رفیعہ ودرجات فیعہ جن میں زید و عمر کی کیا گنتی انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بھی حصہ نہیں سب ایک لخت اڑا دیئے سب لوگوں سے حضور سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز صرف دربارہ احکام رکھا اور وہ بھی اتنا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام واقف ہیں اور لوگ غافل۔ تو انبیاء سے تو کچھ امتیاز رہا ہی نہیں کہ وہ بھی واقف ہیں غافل نہیں تو امتیاز سے بھی امتیاز اتنی ہی دیر تک ہے کہ وہ غافل رہیں واقف ہو جائیں تو کچھ امتیاز نہیں کہ اب وقوف و غفلت کا تفاوت نہ رہا اور امتیاز اسی میں منحصر تھا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○

مُسلمانو! دیکھو یہ حاصل ہے اُس شخص کے دین کا یہ پھپھلا کلمہ ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ۔ پراس کے ایمان کا جس پر اُس نے خاتمہ کیا۔ حالانکہ واللہ دربارہ احکام بھی صرف اتنا ہی امتیاز نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حاکم ہیں صاحب فرمان ہیں، مالک افتراض ہیں، والی تحریم ہیں۔ سُن اِدھر کش احکام سے اپنے نزدیک واقف تو تو بھی ہے پھر تجھے کوئی مُسلمان کہے گا کہ شریعت کے فرائض تیرے فرض کئے ہوئے ہیں۔ شرع کے محرمات تو نے حرام کر دیئے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں انہیں تو نے معاف کر دیا ہے۔ شریعت کا راستہ تیرا مقرر کردہ ہے۔ شریعت میں تیرے احکام بھی ہیں اور وہ احکام احکامِ خدا کے مثل و مساوی ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں لہذا فقیر نے صرف اسی قسم احادیث پر اقتصار کیا اور بفضلہ تعالیٰ اپنا نیزہ خار اگداڑا آہن گداڑا ان گستاخانِ چشم بند و دہن باز کے دل و جگر کے پار کر دیا وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

۲۱۱ امام ابوہامیہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل وخصائص وکمالات ایک لخت اڑا دیئے۔

۲۱۲ امام ابوہامیہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نبی سے کچھ اصلاً امتیاز نہیں اور امتیاز میں

بھی فقط جاہلوں سے ممتاز ہیں نہ عالموں سے۔

اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں علامہ شہاب خفاجی پر کہ نسیم الریاض شرح شفاۃ امام قاضی
عیاض میں قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کی شرح میں ہے

نَبِينَا الْأَمْرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ
أَبْرَ فِي قَوْلٍ لَامِنُهُ وَلَا نَعَمٌ

”ہمارے نبی صاحب امر وہی تو ان سے زیادہ ہاں اور نہ کے فرمانے میں کوئی سچا نہیں“

مَعْنَى نَبِينَا الْأَمْرُ الْخ أَنَّهُ لَا حَاجَ لَكُمْ سِوَاهُ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَاجِكُمْ غَيْرَ مُحْكُومٍ الْخ

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحب امر وہی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ حضور حاکم ہیں حضور

کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں نہ وہ کسی کے محکوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ذِكْرُهُ فِي فَصْلِ جُودِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ يَه تَذِيلٌ جَلِيلٌ لِنَبِيِّهِ فِي بَابِ فِيهِ فَرَدَ كَامِلٌ هُوَ فِي أَحَادِيثِ تَحْرِيمِ مَدِينَةِ طَيْبَةَ هِيَ

اسی باب سے تھیں کہ امام ابوہامیر کے اُس خاص حکم شرک کے سبب جُدا شمار میں رہیں اگر کوئی

چاہے انھیں اور اس بیان تذلیل کو بلا کر احکام تشریحیہ کے بارے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کے اقتدار و اختیار کا ظاہر کرنے والا ایک مستقل رسالہ بنائے اور بنام مَنِيَّةُ اللَّيْبِ ۱۳۹۱ھ

أَنَّ الشَّرِيْعَ بِيَدِ الْحَبِيبِ (عقلمند کی آرزو کہ تشریحِ محبوب کے ہاتھ میں ہے) موسوم ٹھہرائے۔

وَإِخْرَدُ عُونَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

۲۰۳ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہا حاکم ہیں عالم میں نہ ان کے سوا کوئی حاکم نہ وہ کسی کے محکوم۔

تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الْمُبِينِ
حَقِّقْ دَوْم

الامن والعلی الناعتی المصطفی بدافع البیلا

اس مبارک رسالہ ہدایتِ قبالہ میں ۵ آیات شریفہ ۱۸۹ احادیش حنیفہ سے مرین فرمایا گیا
کہ حضور اکرم سرور عالم مالکِ قلوب امم دیان العرب والجمہور کونمناہ عالم سارے عالم کا انتظام
دنیا کے سب کام شریعتِ مطہرہ کے سارے احکام مقرر ہیں چھیب ہیں علیہ الصلاۃ والسلام تمام
اوامر و نواہی حضور کے اختیار میں ہے جو چاہیں فرمائیں اور حکم سے جیسے چاہیں مستثنیٰ فرماویں
مسمیٰ بنام تاریخی

اللہ شہید
میتان ات بیت
۱۳۰۰

ادافاضات عالیہ حضور پر لوراعلی حضرت عظیم البرکت امام اہلسنت رضی اللہ تعالیٰ

باہتمام

جناب مولانا مولوی محمد ابراہیم رضا خاں صاحب

مطبوعہ رضوی پریس ہاؤس لاہور

احسان الہی ظہیر کی کتاب

”البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ“

اکابر اہلسنت کی نظر میں

تالیف علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری مدظلہ

○ زیر نظر کتاب نے ثابت کر دیا ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل بے سرو پا اور غلط ہیں۔ نیز چلتی پھرتی روایتوں اور افواہوں کا قلع قمع کر دیا گیا ہے۔
(علامہ تقدس علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ)

○ فاضل مصنف نے مولف البریلویہ کے مکر و فریب اور دجل کے تمام پردوں کو چاک اور علم و یقین کے نور سے شکوک و اوہام باطلہ کو نیست و نابود کر دیا۔
(غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ)

○ البریلویہ کے افتراء کا جواب بڑی ہی بُر و باری، علمی متانت، عقلی سنجیدگی اور حوالوں کی پختگی کے ساتھ دیا گیا ہے۔ حقائق ہی حقائق ہیں جن کا اجالا پھیلتے ہی اندھیرا غائب اور معاند کی پُرتعصب کاوشِ فکر و قلم خاک میں مل کر رہ گئی ہے۔ (علامہ محمد احمد مصباحی مدظلہ العالی)

○ آپ نے بڑی محنت کی اور تحقیق کا حق ادا کر دیا (پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید احمد ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی)

○ فاضل مصنف نے البریلویہ کے تمام اعتراضات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں، اندازہ بیابان و لکھنؤ، سنجیدہ اور مہذب۔
(ملک بشیر محمد اعوان مرحوم)

○ احسان الہی ظہیر کے الزامات کا عالمانہ اور فاضلانہ نشان سے بے سرو پا ہونا ثابت کیا اور مہکت جوابات دیئے۔
(علامہ عبدالحکیم خان اختر شاہ جہا پوری علیہ الرحمۃ)

○ البریلویہ کے مولف کتنی کھلی کھلی بددیانتیوں کے مرکب ہوئے ہیں جو عالم دین تو کیا شریف انسان سے بھی متوقع نہیں ہوتیں۔ آپ کی کتاب نے اس کے فریب کا پردہ چاک کیا ہے
(پروفیسر محمد ارشد کیڈٹ کالج حسن ابدال)

○ کتاب تحقیقی و تنقیدی جائزہ رسوائے زمانہ کتاب البریلویہ کا صحیح پوسٹ مارٹم اور پندرھویں صدی ہجری کا اگر تقدیر علمی صحیفہ۔
(محمد نشا تائش قصوری)

ملنے کا پتہ: رضا کاہر الاشاعت، ۲۵، نشر روڈ، لاہور پاکستان فون: ۷۶۵۰۲۲۰

احسان الہی ظہیر کے کتاب البریلویہ

کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ (عربی زبان میں)

○ اہلسنت کے عقائد پر قرآن و سنت اور اکابرین اُمت کی آراء سے استنباط
○ بین الاقوامی سکا لرا اور محقق علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاعی، مفسر قرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری
○ جسٹس پیر محمد کورٹ آف پاکستان، ماہر ضریات پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید احمد اور مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی
○ ناظم اعلیٰ تنظیم اہلسنت کے مقالات اور تقریبات سے مزین۔
○ انتہائی سنجیدہ دینی لہجہ، محققانہ اسلوب، ادیبانہ آہنگ
○ عربی زبان میں لکھی گئی ایک اہم تصنیف،
○ جس کا ہر صاحب علم منتظر تھا۔



منظر عام پر آگئی ہے۔

ضخامت: ۳۸۸ صفحات

اپنے قریبی بک سٹال سے
خریدیں یا براہ راست
ہم سے طلب فرمائیں

ملنگ پتہ
کتب قادریہ داتا دربار مارکیٹ نزد سبھن، لاہور

اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مشہور معاصر جناب تقدس
 مآب چودھری محمد عبد الحمید خان، رئیس قصبہ سہارو ضلع ریہ، جو اپنے وقت کے عظیم سکاڑھ محقق اور قادیان
 الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے بارے میں اپنے منظوم تاثرات کا اپنی کتاب
 کنز الآخر تصنیف ۱۳۰۹ ہجری معروف بہ شریعت نامہ، طبع شدہ و کٹوریہ پریس بدایون میں یوں
 اظہار فرمایا ہے :-

مولوی احمد رضا خان فقیہ	نیست مثلش دیگرے لایب فیہ
پایہ اش در فقہ باشد بس بلند	پر تو بویوسف است آں رحمند
پیشوا و مقتدائے اہل دین	وارث علم پیمبر در زمین
واقف اسرار قرآن و حدیث	قائم بدعات و شریعت ہر جمیث
آں محی سنت خیر الانام	اہل سنت و الجماعت را امام

فاضل کامل بریلی سکنتش
 نیست جائز این شرکاز گفتنش

ملحہ مولوی احمد رضا خان فقیہ النجیب یعنی مولانا مولوی سونو احمد رضا خان صاحب نطلکہ فاضل بریلوی
 جو بہت بڑے فقیہ و محدث و جامع جمیع علوم و بچکائے روزگار ہیں اور فقہ میں جن کا ثانی نہیں ہے اور
 جو فی زمانہ مجتہد فقید کا درجہ رکھتے ہیں اور فی الحقیقت اہل سنت و جماعت کی کشتی کے ناخدا ہیں اور
 دجالوں کذابوں زمانہ کے لیے بمنزلہ مسیح کے ہیں۔ ۱۲۔ محمد عبد الحمید خان

دشکر مرید: حضرت مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہمدانی مولانا سلی احمد شندیل

اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مشہور معاصر جناب تقدس
 مآب چودھری محمد عبد الحمید خان، رئیس قصبہ سہارو ضلع ریہ، جو اپنے وقت کے عظیم سکاڑھ محقق اور قادیان
 الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے بارے میں اپنے منظوم تاثرات کا اپنی کتاب
 کنز الآخر تصنیف ۱۳۰۹ ہجری معروف بہ شریعت نامہ، طبع شدہ و کٹوریہ پریس بدایون میں یوں
 اظہار فرمایا ہے :-

مولوی احمد رضا خان فقیہ	نیست مثلش دیگرے لایب فیہ
پایہ اش در فقہ باشد بس بلند	پر تو بویوسف است آں رحمند
پیشوا و مقتدائے اہل دین	وارث علم پیمبر در زمین
واقف اسرار قرآن و حدیث	قائم بدعات و شہرہ بر خبیث
آں محی سنت خیر الانام	اہل سنت و الجماعت را امام

فاضل کامل بریلی مسکنش
 نیست جائز این شرکار از گفتنش

ملحہ مولوی احمد رضا خان فقیہ النج یعنی مولانا مولوی سونو احمد رضا خان صاحب نطلکہ فاضل بریلوی
 جو بہت بڑے فقیہ و محدث و جامع جمیع علوم و بچکائے روزگار ہیں اور فقہ میں جن کا ثانی نہیں ہے اور
 جو فی زمانہ مجتہد فقید کا درجہ رکھتے ہیں اور فی الحقیقت اہل سنت و جماعت کی کشتی کے ناخدا ہیں اور
 دجالوں کذابوں زمانہ کے لیے بمنزلہ مسیح کے ہیں۔ ۱۲۔ محمد عبد الحمید خان

دشکر مرید: حضرت مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہمدانی و مولانا سلی احمد شندیل